

Ketabton.com



دلایل الخیرات (وظایف روزمره)
برای مسلمانان عام و خاص



آخند زاده سیف الرحمن پیر ارجی خراسانی



لیسوک ملام حیدر ملام



لیسوک ملام حیدر ملام

دلایل الخیرات (وظایف روزمره)
برای مسلمانان عام و خاص



آخند زاده سیف الرحمن پیر ارجی خراسانی



لیسوک ملام حیدر ملام



لیسوک ملام حیدر ملام

رَعِيَايَ سِيِّدِي بِرَفْعِي وَيَا عَائِشَةَ
 جہل خوب حضرت ابو بکرؓ تہ نو راتہ نہ او فرمائیل چہ امے عائشہ ضرور
 لَيْدُ فَنَنْ فِي بَيْتِكَ ثَلَاثَةَ هُمْ خَيْرٌ أَهْلِ
 بہ دفن کولے شی ستا بہ کور کنیے درے داسے سہری چہ ہفہ بہ بہترین
 الْأَرْضِ فَلَمَّا تَوَفَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 وی دزمکہ بہ خلقو کنیے، نو کله چہ وفات شو رسول اللہ صلی اللہ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ فِي بَيْتِي قَالَ لِي
 علیہ وسلم او دفن کرے شو خما بہ کور کنیے نو راتہ او فرمائیل
 أَبُو بَكْرٍ هَذَا أَوْ أَحَدٌ مِّنْ أَقْبَارِكِ وَهُوَ
 ابوبکرؓ چہ دا ہفہ یوہ سیورمی دہ ستا بہ سیور مو کنیے او دا
 خَيْرُهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ
 زیاتہ بہترہ دہ بہ ہغو کنیے، رحمت داللہ دوی بہ ہغوی باندے او بہ
 وَسَلَّمَ كَثِيرًا
 آل دھغوی او دیر دیر سلام دوی

أَلْحِزْبُ الْأَوَّلُ
 دا رومے حزب دے
 قَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ
 فصل دے بہ کیفیت د درود لیکلو کنیے بہ نبی کریم
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 صلی اللہ علیہ وسلم باندے
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 شروع کوم داللہ بہ نوم سرہ چہ دیر مہربان دیر رحم کونکے دے
 صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
 رحمت داللہ دوی بہ سردار او مولیٰ زمونیر محمد باندے
 وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
 او بہ آل دھغوی او بہ اصحابو دھغوی او سلام
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
 اے اللہ رحمت او لیرے بہ سردار زمونیر محمد باندے او

اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ

پہ بیبیانو دھغوی او پہ اولاد دھغوی خنکہ چہ تار حمت لیکلے دے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَيَّ

سردار او مولا زمونیر ابراهیم باندے او برکت او لیجے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَازْوَاجِهِ

سردار او مولا زمونیر حضرت محمد باندے او دھغوی پہ بیبیانو

وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ اِلٰى سَيِّدِنَا

او دھغوی پہ اولاد باندے خنکہ چہ تابرکت لیکلے دے پہ سردار زمونیر

وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

او پہ مولا زمونیر ابراهیم باندے بیشکہ تہ ڈیر ستائیلے شومے لوئی والائے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اے اللہ رحمت او لیجے پہ سردار زمونیر او پہ مولا زمونیر حضرت

مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ اِلَيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ

محمد باندے او دھغوی پہ آل باندے خنکہ چہ تار حمت لیکلے دے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَيَّ

سردار زمونیر او پہ مولا زمونیر ابراهیم باندے او برکت او لیجے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ اِلٰى

سردار زمونیر او پہ مولا زمونیر حضرت محمد باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

دسردار او مولا زمونیر حضرت محمد باندے خنکہ چہ تابرکت لیکلے دے

عَلَيَّ اِلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ فِي

پہ آل دسردار او مولا زمونیر حضرت ابراهیم باندے پہ

اَلْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ

عالمونو کنے بیشکہ تہ ڈیر ستائیلے شومے اور دلویئے والائے اے اللہ

صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ

رحمت او لیجے پہ سردار او مولیٰ زمونیر حضرت محمد باندے او پہ

اِلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

آل دسردار او مولا زمونیر حضرت محمد باندے خنکہ چہ تار حمت لیکلے دے



عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

زمنور سردار ابراهيم باندے او برکت اولیرے پہ سردار زمنور

مُحَمَّدٍ وَ اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

محمد باندے او پہ آل دسردار زمنور محمد باندے خنکہ چہ تارکت لیکلے دے

عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ

زمنور پہ سردار ابراهيم باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شومے

مَجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اولونی والائے اے خدایہ رحمت اولیرے پہ سردار زمنور

مُحَمَّدٍ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا

محمد باندے چہ نالوستے نبی دے او پہ آل دسردار زمنور

مُحَمَّدٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد باندے اے اللہ رحمت اولیرے پہ سردار زمنور

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ۝

محمد باندے چہ ستا بندہ دے او ستا رسول دے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت او لیرے خمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا

آل دسردار زمنور محمد باندے خنکہ چہ تارحمت کر دے پہ سردار زمنور

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ

ابراهيم باندے او پہ آل دسردار زمنور ابراهيم باندے بیشکہ تہ

حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

دیر ستائیلے شومے تہ دلونی والائے اے اللہ برکت اولیرے پہ زمنور پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او پہ آل دسردار زمنور محمد باندے خنکہ چہ تہ

بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اِل

برکت لیرے دے پہ سردار زمنور ابراهيم باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

دسردار زمنور ابراهيم باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شومے اولونی والائے

اللَّهُمَّ وَتَرْحَمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ای الله اور رحم او کرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرْحَمْتَ

پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ رحمت کریدے

عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے او پہ آل د سردار زمونیر

اِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

ابراہیم باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے او دلونی خاوند نے ایے الله

وَتَحَنَّنْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

او مہربانی او کرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَي سَيِّدِنَا

دسردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تامہربانی کرے دہ پہ سردار زمونیر

اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

ابراہیم باندے او پہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندے بیشکہ تہ

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَي

دیر ستائیلے شوے او دلونی خاوند نے ایے الله او سلام او لیبرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

كَمَا سَلَّمْتَ عَلَي سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

خنکہ چہ تا سلام لیبرے دے پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے او پہ آل

آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝

دسردار زمونیر ابراہیم باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے او دلونی خاوند نے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ایے الله درود اولیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

دسردار زمونیر محمد باندے اورحم او کرے پہ سردار زمونیر محمد باندے

وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَي سَيِّدِنَا

او پہ آل دسردار زمونیر محمد باندے او برکت اولیبرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او بہ آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تا

صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

درو دلیرے دے اور رحمت دنازل کرے دے اوبرکت دلیرے دے بہ سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي

ابراہیم باندے او بہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندے بہ

الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

عالمو کنہے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوئے، دلوی خاوندئے، اے اللہ

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ

درو داو لیرے بہ سردار زمونیر محمد باندے خوک چہ نبی دے او بہ بیبانو

أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ

دھغوی چہ دمومانو میندے دی او بہ او لاددھغوی باندے او بہ اهل بیتو

بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

دھغوی خنکہ چہ تا درود دلیرے دے بہ سردار زمونیر ابراہیم باندے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ

بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے دلوی خاوندئے اے اللہ، برکت او لیرے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بہ سردار زمونیر محمد باندے او بہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

محمد باندے خنکہ چہ دبرکت لیرے دے بہ سردار زمونیر ابراہیم باندے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ دَاخِيَ الدَّحْوَا

بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے، دلوی خاوندئے، اے اللہ ذمکو

وَبَارِئِ الْمَسْمُوكَاتِ وَجَبَّارِ الْقُلُوبِ

فرش غورونکیہ او پیدا کونکیہ داو چتو آسمانو نو او مجبورونکیہ دزرونو

عَلَىٰ فِطْرَتِهَا شَقِيهَا وَسَعِيدِهَا اجْعَلْ

بہ پیدا کولو دھغوی بدبختہ دھغوی او نیک بختہ دھغوی او گر خوم

شَرَّ آيَفَ صَلَوَاتِكَ وَتَوَافِي بَرَكَاتِكَ

عزتمند رحمتونہ خچل او زیاتیدونکی برکتونہ خچل

وَرَأْفَةٌ تَحْنُنُكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

او لوتے مہربانی خیلے زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے

عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقُ

چہ ستابندہ اور رسول دے کوم چہ پرانستونکے دے دھغہ خیز چہ بندوو

وَالخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْمُعَلِّينَ الْحَقِّ

او ختمونکے دھغہ خیز چہ تیرشومے دے او ظاہرونکے دحق دے

بِالْحَقِّ وَالِدَامِغِ لِحَبِشَاتِ الْبَاطِلِ

پہ راستی سرہ او ماتونکے دے دباطلو لبیکرو خنگہ چہ راپورتہ

كَمَا حُمِلَ فَاضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ

کھے شوی ووپس تیارشوستاپہ حکم باندے ستا فرمان برداری ته

مُسْتَوْفِرًا فِي مَرْضَاتِكَ وَأَعْيَا لَوْحِيكَ

تلوار کونکے پہ ستا رضامندی کنہی خیال ساتونکے دے ستا دوحی

حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَا ضِيًّا عَلَى نِقَازِ أَمْرِكَ

حفاظت کونکے دے دلو ط ستابوتلونکے دے ستا حکم پہ نافذ کولو

حَتَّىٰ أَوْرَىٰ قَبَسًا لِقَائِهِ لَأَيُّ اللَّهِ تَصِلُ

تردے پورے چہ رویشانہ نے کرہ دنور شغلہ دپارہ درنا خستونکی دالله نعمتہ

بِأَهْلِهِ أَسْبَابُهُ بِهِ هُدَيْتِ الْقُلُوبُ

پوخائے کوی اهل خیل خیلوسیبونوسرہ دھغوی پہ ذریعہ ہدایت کرے شومے

بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ وَأَبْهَجَ

دے زبونوتہ روسو ددوبیدلونہ پہ فتنو او گناہونو کنہی او زینت نے ور کرو

مَوْضِعَاتِ الْأَعْلَامِ وَنَائِرَاتِ الْأَحْكَامِ

خلیدونکو نشانونوتہ او حکمونہ خلونکو

وَمُنِيرَاتِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ أَمِينُكَ

او دا سلام رویشانہ کونکو خیزونو لرہ پس ہغہ امین دے

الْمَأْمُونُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْرُومِ

ستا امن ورکھے شومے اونکھیان دے ستا دہت علم

وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَبِعَيْتِكَ نِعْمَةٌ

او گواہ ستا دے پہ روح دجزا او ستا رالیبرے شومے نعمت دے

وَرَسُولِكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً ۝ اللَّهُمَّ

اور رسول ستادمے پہ حق سرہ سراسر رحمت دے امے اللہ فراخ کرے

افسَحْ لَهُ فِي عَدْنِكَ وَاجْزِهِ مُضَاعَفَاتٍ

ہفہ دہارہ خائے دہفہ پہ خیل جنت کنیے اوبدلہ ور کرے ہفہ لہ ددو چندو

الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مُهْتَابٍ لَّهُ غَيْرِ

نیکیانو دخیل فضل نہ چہ خوشگوارہ وی ہغوی د پارہ بغیر

مُكَدَّرَاتٍ مِّنْ فَوْزِ تَوَائِيكِ الْمَحْلُولِ

ذکدورت نہ سرہ دکامیابی دثواب ستاکوم چہ نازل کرے شوے دے

وَجَزِيلٍ عَطَائِكَ الْمَعْلُولِ ۝ اللَّهُمَّ

او دلونے ور کرے ستا کومہ چہ پرلہ پسے راتلونکے دہ۔ امے اللہ

اعْلِ عَلَى بِنَاءِ النَّاسِ بِنَاءً وَآكْرِمِ

اوجت کرے پہ آبادی دخلقو آبادی دہغوی او عزتمندہ کرے تہکانہ

مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنُزْلَهُ وَأَتِمِّمْ لَهُ

دہغوی خیل خان سرہ او میلیمستیادہغوی او پورہ کرے ہغوی دہارہ

نُورَهُ وَاجْزِهِ مِنْ ابْتِعَاثِكَ لَهُ

نور دہغوی اوبدلہ ور کرے ہغوی تہ پہ خیلوراپور تہ کولوسرہ ہغوی لہ

مَقْبُولِ الْمَقَالَةِ

مقبول والے د گواہی او خوبش والے ذخیرو

ذَامِنَطِقِ عَدْلٍ وَخُطَّةٍ قَصْلِ وَ

کومہ چہ د انصاف گویائی دہ او فیصلہ دشان والا او

بُرْهَانٍ عَظِيمٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ

لونے حجت والا پئے۔ بیشکہ اللہ تعالیٰ او فرشتے دہفہ

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

رحمت لیبری پہ نبی باندمے۔ امے ایمان والو

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ لِيَبْئُرَ

درو دا لیبری پہ ہفہ باندمے او سلام پراو لیبری دیر سلام۔ زہ ستا خدمت تہ

اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ

حاضریم امے اللہ خمار بہ او مدد کوم (ستا ددین) رحمتونہ د اللہ

الْبَرِّ الرَّحِيمِ وَالْمَلِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

احسان کونکي مهربان او ذ مقربو فرشتو

وَالنَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

او د پيغمبرانو او صديقانو او شهيدانو

وَالصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ

او نیک بختانو او هغه چه پاکی بيانوي ستا دهر خيزنه

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے پروردگاره د عالمونو په سردار زمونږ محمد

ابن عبد الله خاتم النبیین و سید

خونے د عبدالله چه آخري پيغمبر دے او سردار

المرسلين و امام المتقين و رسول

د رسولانو دے او امام دهر هيزگارانو او رسول

رب العالمين الشاهد لبشير الداعي

د رب العلمين دے. گواهي ورکونکے 'زيرے ورکونکے رابلونکے

إِلَيْكَ يَا ذَنبِكَ السِّرَاحِ الْمُنِيرِ وَعَلَيْهِ

ستا طرف ته ستا په حکم سره چراغ روښانه او په هغوی د

السَّلَامِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ

سلام وي. اے الله نازل کرے رحمتونه خپله

وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

او برکتونه خپله او مهرباني خپله په سردار د مرسلانو

وَامَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّنَ

او په امام دهر هيزگارانو او په ختمونکي د پيغمبرانو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

په سردار زمونږ محمد باندے چه ستا بنده او رسول دے

إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ

امام د نيکي دے او راښکونکي د نيکي دے او رسول

الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا

د رحمت دے. اے الله پا سوه هغوی لره مقام

مَحْمُودًا يَغِيْطُهُ فِيْهِ الْاَوْوَنُ وَ

محمود ته چه پسخيدل ورته او كړي په هغه كښې مخكني او

الْاٰخِرُونَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

روستوني. اے الله رحمت او ليرې په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

محمدبانده او په آل د سردار زمونږ محمدبانده څنگه چه در رحمت ليكلې ده

عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝

په سردار زمونږ ابراهيم بانده بيشكه ته ډير ستايله شوه دلوي خاوند ئه

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اے الله برکت او ليرې په سردار زمونږ محمد بانده او په

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى

آل د سردار زمونږ محمد بانده څنگه چه در برکت ليكلې ده په

سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝

سردار زمونږ ابراهيم بانده بيشكه ته ډير ستايله شوه دلوي خاوند ئه

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اے الله رحمت او ليرې په سردار زمونږ محمدبانده او په آل د هغوی او په

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَ

اصحابو دهغوی او په اولاد دهغوی او په بيانو دهغوی او په بچو

ذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَ

دهغوی او په اهل بيتو دهغوی او په سخر گڼې دهغوی او په مددگار

اَنْصَارِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّيْهِ وَاُمَّتِهٖ وَ

انو دهغوی او په پيروي کونکو دهغوی او په محبت کونکو دهغوی او په

عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ ۝

امت دهغوی او په مونږه بانده سره دهغوی ټولو. اے دټولو نه زيات رحم کونکيه

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ

اے الله رحمت او ليرې په سردار زمونږ محمد بانده په شمار دهغه چا

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

چه درود ئه وربانده ليكلې ده اور رحمت او كړې په سردار زمونږه

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ

محمد باندے پہ شمار دہفہ چاچہ درود نے نہ دے لیکلے پہ ہغوی باندے او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا

رحمت اولیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تا حکم کرے دے مونیرتہ

بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ

پہ درود لیکلو پہ ہفہ باندے اور رحمت اولیرے پہ ہغوی باندے خنکہ چہ

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تہ خوبنومے درد لیرل پہ ہغوی باندے . اے اللہ رحمت اولیرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝

خنکہ چہ تا حکم کرے دے مونیرتہ چہ درود اولیرو پہ ہفہ باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ۝

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ ہفہ لائق د دے دے .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاهُ

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تہ خوبنومے اور اضی کیرے ہرے

لَهُ ۝ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دپارہ دہفہ . اے اللہ اے ربہ د سردار زمونیر محمد

وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او آل د سردار زمونیر محمد رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِ

محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے او ور کرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالدَّرَجَةِ وَالْوَسِيلَةِ

زمونیر سردار محمد تہ درجہ او وسیلہ

فِي الْجَنَّةِ ۝ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

به جنت کنی. ای الله! ای پروردگاره د سردار زمونیر محمد

وَإِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِجْزِ سَيِّدِنَا

او ذ آل د سردار زمونیر محمد، بدله ور کرے سردار زمونیر

مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ

محمد صلی الله علیه وسلم ته د کومے چه هغه

أَهْلُهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لائق وی. ای الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر محمد باندمے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے او په اهل بیتو

د هغوی. ای الله در دو او لیرے په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے او په

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ

آل د سردار زمونیر محمد باندمے تردے پورے چه پاتے نشی

الصَّلَاةِ شَيْءٌ ۝ وَارْحَمْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا

ذ درود نه هیخ شے. او رحم او کرے په سردار زمونیر محمد باندمے

وَإِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے تردے پورے چه پاتے نشی

الرَّحْمَةِ شَيْءٌ ۝ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

ذ رحمت نه هیخ شے. او برکت او لیرے په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے

حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الْبَرَكَاتِ شَيْءٌ ۝ وَسَلِّمْ

تردے پورے چه پاتے نشی ذ برکت نه هیخ شے او سلام او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

په سردار زمونیر محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٌ ○

محمدؐ باندے تردے ہورے چہ ہاتے نشی د سلام نہ ہیخ شے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے پہ

الْأَوَّلِينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اولنو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

فِي الْآخِرِينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہ آخرنو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

فِي النَّبِيِّينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہ نبیانو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

فِي الْمُرْسَلِينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ رسولانو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ فِي لَمَلٍ أَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ○

محمدؐ باندے پہ فرشتو کنے ترورخ د جزا ہورے

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْ سَيِّلَةٍ

اے اللہ! ورکھے زمونیر سردار محمدؐ تہ وسیلہ

وَالْفَضِيلَةِ وَالشَّرَفِ وَالذَّرَجَةِ الْكَبِيرَةِ

او فضیلت او بزرگی او لوہہ درجہ اے اللہ!

اللَّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بیشکہ ما ایمان واؤرے دے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے حالانکہ

لَمَأْرَهُ فَلَا تَحْرِمْنِي فِي لِحْنَانِ رُؤْيَيْتَهُ

ماہغہ نہ دے لیدلے نوماحروم مہ کرے پہ جنت کنے دھغوی د لیدلہ نہ

وَأَرْزُقْنِي صُحْبَتَهُ وَتَوْفِيقِي عَلَى مِلَّتِهِ

اورا نصیب کرے ملکر تیا دھغوی او وفات مے کرے پہ ملت دھغہ

وَأَسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَبًا رَوِيًّا

اورا باندے او سکوں دھغوی د حوض نہ سکل سیرابونکی

سَأَبْغَاهُنِيَّ إِلَّا نَظْمًا بَعْدَ أَبَدًا إِنَّكَ

دھری نہ تیریلونکی خوشگوار چہ مونیر تری نشو دھغہ نہ پس ہیجرے بیشکہ تہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ اللَّهُمَّ أَيْلِغْ رُوحَ

پہ ہر خیز باندے قدرت لرونکے نے اے اللہ اور سوسے زمونیر دسردار محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنِّي تَجِيَّةً وَسَلَامًا ۝

روح ته خما د طرفه دعا او سلام

اللَّهُمَّ وَكَمَا أَمَنْتُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ او خنکھ چه ما ایمان راڑرے دے پہ سردار زمونیر محمد او

لَمَّارَةٌ فَلَا تَحْرِمْنِي فِي لِحْنَانِ رُؤَيْتَهُ

حال داچه لیدلے مے نہ دے پس مامحروم مه کرے پہ جنت کنے دھغوی

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ددیدارنہ اے اللہ قبول کرے شفاعت د سردار زمونیر محمد چه

الْكُبْرَىٰ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَآتِهِ

لونه شفاعت دے او اوچتہ کرے دھغوی لوبہ درجه او ور کرے ورته

سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ كَمَا أَتَيْتَ

مراد دھغوی پہ آخرت او پہ دنیا کنے خنکھ چه تاور کرے دے

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدِنَا مُوسَىٰ ۝ اللَّهُمَّ

زمونیر سردار ابراهیم ته او زمونیر سردار موسیٰ ته. اے اللہ

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

رحمت اولیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

دسردار زمونیر محمد باندے خنکھ چه تارحمت لیرے دے پہ سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ

ابراہیم باندے او پہ آل دسردار زمونیر ابراهیم باندے او

بَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

برکت او لیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

سردار زمونیر محمد باندے خنکھ چه تابرکت لیرے دے پہ سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

ابراہیم باندے اور پہ آل دسردار زمونیر ابراهیم باندے بیشک ته

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دیرستائیلے شوے نے دبر رکھی خاوند نے۔ اے اللہ درود اولییرے او سلام

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَ

او برکت پہ سردار زمونیر محمد باندے چہ ستا نبی دے او ستا رسول

رَسُولِكَ ۝ وَسَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلِكَ

دے۔ او پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے چہ ستا خلیل دے او ستا

وَصَفِيَّكَ وَسَيِّدِنَا مُوسٰى كَلِيْمِكَ وَ

خوبش کرے شوے دے او پہ سردار زمونیر موسیٰ باندے چہ ستا کلیم دے او

نَجِيْبِكَ ۝ وَسَيِّدِنَا عِيْسٰى رُوْحِكَ وَ

ستا همراز دے، او پہ سردار زمونیر عیسیٰ باندے چہ ستا روح دے او

كَلِمَتِكَ وَعَلٰى جَمِيْعِ مَلٰئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ

ستا کلمہ دے، او پہ تہولو ملائکہ ستا او پہ رسولا نو ستا

وَ اَنْبِيَايِكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ

او پہ نبیانو ستا او پہ غورہ گسانو د مخلوق ستا او پہ

اَصْفِيَايِكَ وَخَاصَّتِكَ وَاَوْلِيَايِكَ مِنْ

خوبش کرے شوے ستا او پہ خاصا نو ستا او پہ دوستانو ستا کوم چہ

اَهْلِ اَرْضِكَ وَسَمَائِكَ ۝ وَصَلِّ اَللّٰهُ

او سیدونکی دی ستا زمکے او ستا د آسمان، او رحمت د اللہ دوی

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِهِ وَحَنَاءِ

پہ سردار زمونیر، محمد باندے پہ شمیر د مخلوق دہغه او پہ رضا کیدلو

نَفْسِهِ وَزِيْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادِ كَلِمَاتِهِ وَ

ذات دہغه، او پہ وزن د عرش دہغه او پہ مقدار د سیاہی د کلمو دہغه

كَمَا هُوَ اَهْلُهُ وَكُلَّمَا ذَكَرَهُ الذُّكْرُوْنَ

او خنکے چہ ہغه لائق د دے دے، او کلمہ چہ یا ذوی نے یا ذونکی

وَعَقَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَعَلٰى اَهْلِ

او کلمہ چہ غفلت کوی د ذکر دہغه نہ غفلت کونکی او پہ اهل بیعو

بَيْتِهِ وَعِثْرَتِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

دہغوی باندے او پہ اولاد دہغوی چہ پاکان دی او سلام پرے اولییرے دیر دیر۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ارے اللہ رحمت او لہجے زمونہر پہ سردار محمد باندمے او بہ

أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَعَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ

بیبیانو دھفہ او بہ اولاد دھفہ او بہ تولو نبیانو

وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْمُقَرَّبِينَ وَ

او رسولانو او بہ ملانکو او بہ مقربینو او داللہ

جَمِيعِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ عَدَدَ مَا أَمْطَرَتْ

بہ تولو نیکانو بندگانو بہ شمار دھفہ شاخکو چہ ورولی دی

السَّمَاءُ مِنْذُ بَنِيَّتِهَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

آسمان کله نہ چہ تادمے پیدا کرے دے اورحمت اولہجے بہ سردار زمونہر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْذُ

محمد باندمے بہ شمار دھفہ شینکو چہ زرغون کرے دی زمکے دکله راسے

دَحْوَتِهَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

چہ تا داغورولے دے اورحمت اولہجے بہ سردار زمونہر محمد باندمے

الْجُودِ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّكَ أَحْصَيْتَهَا ○ وَ

بہ شمار دھفہ ستورچہ بہ آسمان کنہے دی خکہ چہ تادا شمارلی دی او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتْ

رحمت اولہجے بہ سردار زمونہر محمد باندمے بہ شمار دھفہ چہ سا کلمے اخلی

الْأَسْرَاحُ مِنْذُ خَلَقْتَهَا ○ وَصَلِّ عَلَى

تول ساه لرونکی چہ کله راسے تادا پیدا کرے دی اورحمت اولہجے بہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا

سردار زمونہر محمد باندمے بہ شمار دھفہ مخلوق چہ تابیدا کرے دے اوھفہ

تَخَلَّقَ وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَضَاعَ

چہ تہ بہ نہ پیدا کرے اوھفہ چہ چاپیرہ دے ورباندمے علم ستا او دوچند

ذَلِكَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ عَدَدَ خَلْقِكَ

ددمے ارے اللہ رحمت اولہجے بہ ہفوی باندمے بہ شمار دمخلوق خیل

وَرِضَاءِ نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ

او بہ رضا کیدلو دذات خیل او بہ وزن دعرش خیل او بہ مقدار د سیاھی

كَلِمَاتِكَ وَمَبْلَغَ عِلْمِكَ وَآيَاتِكَ ○

دکلماتو سٽا او په انداز ۷ د علم سٽا او دنښو سٽا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوةً تَفُوقُ وَ

اے الله رحمت او ليرے په هغوی داسے رحمت چه او جت او

تَفْضُلُ صَلَوةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَلْقِ

غوره وي د درود ليکونکو درود نه په هغوی باندے د ټول

أَجْمَعِينَ كَفَضْلِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ ○

مخلوق نه څنگه چه سٽا فضيلت دے په ټول مخلوق سٽا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً

اے الله رحمت او ليرے په هغوی باندے داسے رحمت چه همیشه وي او

الدَّوَامَ عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ مُتَّصِلَةً

جاري اوسي څومره پورے چه همیشه او جاري دي شپے او ورځے متصل وي

الدَّوَامَ لَا انْقِصَاءَ لَهَا وَلَا انْصِرَامَ عَلَى

همیشه والي سره چه نه ئے پوره والے وي او نه ئے پر يکيدل وي په

مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ عَدَّةً كُلِّ وَابِلٍ وَكُلِّ

جاري والي د شپو او د ورځو په شمار دهر باران او د پرنے اے الله

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَسَيِّدِنَا

رحمت او ليرے په سردار زموږ محمد باندے چه ستاني دے او په سردار زموږ نبی

أَبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَعَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَأَصْفِيَاءِكَ

ابراهيم چه سٽا خليل دے او په ټولو پيغمبرانو خپلو او خاصانو خپلو

مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَاوَاتِكَ عَدَّةً خَلْقِكَ

سٽا د زمکے او سیدونکو نه او د اسمان او سیدونکو نه په شمار د مخلوق سٽا

وَرِضَاءِ نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَوِدَادِ

او په رضامندی د ذات سٽا او په وزن د عرش سٽا او په سياهی

كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى عِلْمِكَ وَزِينَةِ جَمِيعِ

دکلماتو سٽا او په منتهی د علم سٽا او په وزن د ټولو

مَخْلُوقَاتِكَ صَلَوةً مُكْرَرَةً أَبَدًا عَدَدَ مَا

مخلوقانو سٽا داسے رحمت چه پرله پسے وي همیشه په شمار دهغے چه

أَحْضِرْ عِلْمَكَ وَمِلَّءْ مَا أَحْضَرْتَهُ لَكَ

کیر کړي دي علم ستا او په ذکر کوالي دهغه چه کیر کړي دي علم ستا

وَأَضْعَافَ مَا أَحْضَرْتَهُ لَكَ صَلَاةً تَزِيدُ

اوپه دو چند دهغه چه کیر کړي دي علم ستا داسه رحمت چه زیات وي

وَتَفَوُّقُ وَتَفْضُلُ صَلَاةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ

اوپورته وي اوزیات شوم وي په درود د درود دویونکو په هغوی باندی

مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ كَفَضْلِكَ عَلَا

د ټولو مخلوقاتو نه څنگه چه ستا او چتوالی دے په

جَمِيعِ خَلْقِكَ ثُمَّ تَدْعُوا بِهَذَا الدُّعَاءِ

ټول مخلوق ستا. بیا ته او غواړه دے دعا لره

فَأِنَّهُ مَرْجُوُّ الْإِجَابَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

څکه چه دهغه د قبول کوالی امید کیدل شي کچرے او غواړي الله تعالی

بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

پس د درود لیر لونه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندی

وَسَلِّمْ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَزِمَ مِلَّةَ

اے الله او کړ خوے ما دهغه چا نه چه لازم ئے نیولے دے ملت

نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

د نبی ستا چه زمونږه سردار محمد صلی الله علیه وسلم دے او اوچته

وَسَلِّمْ وَعَظَّمَ حُرْمَتَهُ وَأَعَزَّ كَلِمَتَهُ وَ

ئے لرلے ده مرتبه دهغوی او عزتمند ئے لرلے ده کلمه دهغوی او خیال

حَفِظَ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ وَنَصَرَ حَزْبَهُ وَ

ئے ساتلے دے دلوظا دهغوی او دوعلمے دهغوی او امداد ئے کړے دے ددلے

دَعْوَتَهُ وَكَثَّرْتَ تَابِعِيهِ وَفَرَّقْتَهُ وَوَأَنَّى

دهغوی او دعوت دهغوی اوزیات کړي ئے دي پیروي کونکي دهغوی

زَمْرَتَهُ وَلَمْ يُخَالَفْ سَبِيلَهُ وَسُنَّتَهُ ۝

اوپوره کړے ئے ده ډله دهغوی او مخالفت ئے نه دے کړے دهغوی دلارے او

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْإِسْتِسْقَاءَ بِسُنَّتِهِ

طریقے نه اے الله زه سوال کومه تانه دمنگلو لگولو نه په طریقے دهغوی

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِنْجِرَافِ عَمَّا جَاءَ

او پناه غوارم پنا سره چه واژرم دهغه خه نه کوم چه هغوی راوړي

بِهِ ۰ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا

دي. اے الله زه سوال کوم تانه دهغه بهتر دخیزونو کوم چه

سَأَلْتُكَ مِنْهُ سَيِّدُ نَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ

غوبنتي دي تانه سردار زمونير محمد چه ستاني دے او ستا

رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ

رسول دے صلي الله عليه وسلم او پناه غوارم پنا سره

مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ سَيِّدُ نَا مُحَمَّدٌ

دشره دهغه بدی نه چه ستاپناه غوبنتي ده دهغه نه سردار زمونير محمد

نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

چه ستا ني او رسول دے صلي الله عليه وسلم.

اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَعَاقِبَتِي

اے الله بچ کرے ما دفتنو دشرنه او محفوظ مے او لرے

مِنْ جَمِيعِ الْبَحْنِ وَأَصْلِحْ مِنِّي مَا ظَهَرَ

دټولو محتنونونه او درست کرے خمانه کوم چه ظاهر دي

وَمَا بَطَّنَ وَتَقِّ قَلْبِي مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ

او کوم چه پټ دي او پاک کرے زره خماد کينه نه او د حسد نه

وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تَبَاعَةَ لِأَحَدٍ ۰ اللَّهُمَّ

اومه اچوم په ما باندے تاوان دهيجا. اے الله

إِنِّي أَسْأَلُكَ الْإِخْتِيارَ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ

زه سوال کوم تا نه دتوفيق دهغه بهتر والي چه تا ته معلوم دے

وَالْتَرَكُ لِسَيِّئِي مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ التَّكْفُلَ

او دپهرينو دلو دهغه بدو کومے چه تاته معلوم دے او غوارم تانه بهر وسه

بِالرِّزْقِ وَالرُّهْدَ فِي الْكِفَافِ وَالْمَخْرَجَ بِالْبَيَانِ

په رزق سره او زهد په خرج کولو کينه او وتل په ظاهر بدلو

مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَأَقْلَحَ بِالصَّوَابِ فِي كُلِّ

دهرے شهبے نه او فتح مندي په حق امرسره په هر

حُجَّةٍ وَالْعَدْلَ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ

حجت كنبے او عدل په غصے او په رضا كنبے

وَالسَّلِيمَ لِمَا يَجْرِي بِهِ الْقَضَاءُ وَالْاِقْتِصَادَ

او قبول دهنه چه جاري شوم دے ورباندے حکم ستا او ميانه روي

فِي لِقْفَرٍ وَالْغِنَى وَالْتَوَاضِعَ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ

په غريبي او مالداري كنبے او عاجزي كول په قول او فعل كنبے

وَالصِّدْقَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ ۝ اَللّٰهُمَّ

او درست والے (ريشتوالے) په سمه خنده او په توفه كنبے. اے الله بيشكه

اِنَّ لِيْ ذُنُوْبًا فِيمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ وَذُنُوْبًا

خماخه گناهونه دي كوم چه خما او ستا تر مينځه دي او خه گناهونه دي

فِيمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ ۝ اَللّٰهُمَّ مَا

كوم چه خما او ستا د مخلوق تر مينځه دي. اے الله كوم

كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاعْفِرْهُ وَمَا كَانَ مِنْهَا

گناهونه چه راته ستا شوي دي نو هغه راته او بخښے او كوم چه راته شوي دي

لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّيْ وَاعْنِنِيْ بِفَضْلِكَ

ستاد مخلوق نو پورته نے كړے خمانه. او په پروه مے كړے په خپل فضل سره

اِنَّكَ وَاَسِعُ الْمَغْفِرَةَ ۝ اَللّٰهُمَّ تَوَرَّ بِالْعِلْمِ

بيشكه ته دلونه مغفرت والا نے. اے الله روښانه كړے په علم سره

قَلْبِيْ ۝ وَاسْتَعْمَلْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِيْ ۝

زړه خما او استعمال كړے په طاعت خپل كنبے بدن خما

وَخَلِّصْ مِنْ الْفِتَنِ سِرِّيْ ۝ وَاشْغَلْ

او خلاص كړے د فتنونه باطن خما او مشغول كړے په

بِالْاِعْتِبَارِ فِكْرِيْ ۝ وَوَقِنِيْ شَرَّ وَاَوْس

عبرت سره فكر خما او ما اوسا ترے دوسوسو

الشَّيْطَانِ ۝ وَاجْرِنِيْ مِنْهُ يَا رَحْمٰنُ

د شيطان نه او پناه را كړے دهغه نه اے ډير مهربانه

حَتّٰى لَا يَكُوْنُ لَهٗ عَلَيَّ سُلْطٰنٌ ۝

تر دے پورے چه او نشي هغه لره غلبه په ما باندے

الْحِزْبُ الثَّانِي فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ

دویم حزب ذہبی دورخ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَ

اے اللہ زہ غوارم تا نہ ہفہ خیرونہ چہ تا تہ معلوم دی او

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ

پناہ غوارم پناسرہ دہفہ شرونونہ چہ تا تہ معلوم دی او تانہ بخنبہ غوارم

مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ

دہرے ہفہ گناہ چہ تا تہ معلومہ دہ بیشکہ تہ پوہیرے او مونیر نہ پوہیرو

وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي

اوتہ ڈیر پوہیدونکے نی پہ غیبو باندمے اے اللہ او ساتے ما

مِنْ رَفَاقِي هَذَا أَوْ أَحَدًا قُلُوبًا تَطَاوَلُ

ددمے زمانے نہ او ذرا کبیرولو د فتنونہ او د ظلم کولو

أَهْلِ الْجُرَاةِ عَلَيَّ وَأَسْتَضَعُ فِئْتَهُمْ إِيَّايَ

دزبرہ ورائونہ پہ ما باندمے او د کمزوری گنبرلو دہفوی مالرہ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْكَ فِي عِيَاذٍ مَنِيْعٍ وَ

اے اللہ او کمر خومے مادخبل طرف نہ پہ مضبوطہ پناہ کنبے او پہ مضبوط

حَرِيْرٍ حَصِيْنٍ مِّنْ جَمِيْعِ خَلْقِكَ حَتَّىٰ

قلعہ کنبے دتبول مخلوق خبل نہ تردمے پورے چہ راؤزشومے راتہ مرگ

تُبَلِّغَنِي أَجَلِي مُعَافِيًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

پہ دمے حال کنبے چہ عافیت راکرمے شومے وی اے اللہ رحمت او لبرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زومونیر محمد باندمے او پہ آل دسردار زومونیر محمد باندمے پہ شمار

عَدَدٍ مِّنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَصَلَّىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

دہفہ چاچہ درود نے لیکلے دمے پہ ہفوی باندمے اور حمت اولبرے

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ

زومونیر پہ سردار محمد باندمے او پہ آل دسردار زومونیر محمد باندمے پہ شمار دہفہ

مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلَّىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

چاچہ درود نے نہ دمے لیکلے پہ ہفوی باندمے اور حمت اولبرے زومونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

به سردار محمد باندے او په آل د سردار زمونیر محمد باندے څنگه چه

تَتَّبِعِي الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

لا تقي دي رحمت ليكل په هغوی باندے او رحمت اوليرے په سردار زمونير

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او په آل د سردار زمونير محمد باندے څنگه دے

تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

واجب دي درود ليرل په هغوی باندے او درود اوليرے په سردار زمونير

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او په آل د سردار زمونير محمد باندے څنگه چه

أَمْرٌ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ

تا حکم کرے دے ددرود ليکلو په هغوی باندے او رحمت اوليرے په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونير محمد باندے او په آل د سردار زمونير محمد باندے

الَّذِي نُورُهُ مِنْ نُورِ الْأَنْوَارِ وَأَشْرَقَ

هغه هستي چه نور دهغوی اصل دتولو نورو نودے او روښانه شول

بِشُعَاعِ سِرِّهِ الْأَسْرَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

سره د خليدو دراز دهغوی تول رازونه اے الله رحمت اوليرے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

په سردار زمونير محمد باندے او په آل د سردار زمونير

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَبْرَارِ

محمد باندے او په اهل بيتو دهغوی نيکوکارانو

اجْمَعِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

تولو باندے اے الله رحمت اوليرے په سردار زمونير

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ إِلِهِم بِحَرَائِرِكَ وَمَعْدِنِ

محمد باندے او په آل دهغوی کوم چه درياب دے دانوارو ستا او کان دے

أَسْرَارِكَ وَلِسَانِ مَجَّتِكَ وَعُرْوَسِ

درازونو ستا او زبه ده د حجت ستا او خلعي

مَمْلُكَتِكَ وَإِمَامَ حَضْرَتِكَ وَخَاتِمَ

د مملکت ستا او امام د دربار ستا او ختمونکے د نبیانو ستا

أَنْبِيَائِكَ صَلَوَةٌ تَدُومُ يَدًا وَإِمَامًا وَ

داسے رحمت چه همیشه وی به همیشه والی ستا او باقی پاتے شی

تَبْقَى بِبَقَائِكَ صَلَوَةٌ تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ

سره دباقی والی ستا داسے رحمت چه راضی کری تالره اوراضی کرے ته

وَتُرْضِي بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ○

هغه لره او ته راضی شه په هغه سره زمونږ نه اے د جهان پالونکیه

اللَّهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَرَبَّ

اے الله پروردگار د حجل او د حرم او پروردگار

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

د مشعر حرام (مزدلفه) او پروردگار د حرمت والا کور

وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ أَيْلَاحِ لِسَيِّدِنَا

او پروردگار د رکن او مقام ابراهیم او رسوم زمونږ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَّا السَّلَامِ ○ اللَّهُمَّ

او زمونږ مولا محمد ته زمونږ د طرفه سلام. اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

رحمت اولیرے زمونږ په سردار او مولا محمد باندے چه سردار دے

الْأُولَى وَالْآخِرِينَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

دمخکو او روستو خلقو. اے الله رحمت او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ

زمونږ په سردار او مولا محمد باندے په هر یو

وَقْتٍ وَحِينٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

وخت او زمانه کنے. اے الله رحمت اولیرے زمونږ آ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَا أَعْلَى إِلَى

او زمونږ په مولا محمد باندے په ډله داوچو فرشتو کنے تر

يَوْمِ الدِّينِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورځ د بدله پورے. اے الله رحمت او لیرے زمونږ په سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرِثَ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ○

او زموڼر مولا محمد باندے تردے پورے چه وارث شے ته دزمکے او

هغه څه چه ددغے د پاسه دي او ته بهتر نے په ټولو وارثانو کنه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

اے الله رحمت اولیرے زموڼر په سردار محمد باندے چه نبي دے

نالوستے دے او په آل د سردار زموڼر محمد باندے څنگه چه

صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

تا رحمت لیرے دے زموڼر په سردار ابراهیم باندے بیشکه ته

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ○ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

ستائیلے شونے دے دلویں خاوند نے او برکت او لیرے په سردار زموڼر

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

محمد باندے چه نبي دے نالوستے څنگه چه تا برکت لیکلے دے په

محمد باندے چه نبي دے نالوستے څنگه چه تا برکت لیکلے دے په

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ○

سردار زموڼر ابراهیم باندے بیشکه ستائیلے شونے . دلویں خاوند نے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت اولیرے په سردار زموڼر محمد باندے او په آل د سردار

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ

زموڼر محمد باندے په شمار دهغه چه گهيره اچولے ده په هغه باندے

عِلْمُكَ وَجَرَى بِهِ قَلَمُكَ وَسَبَقَتْ

علم ستا او جاري شونے دے ورباندے قلم ستا او ورباندے شونے ده

بِهِ مَشِيئَتُكَ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَتُكَ

در باندے اراده ستا او چه درود لیکلے ورباندے ملائکو ستا داسے

صَلَاةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِكَ بِأَقْبَى بِفَضْلِكَ

رحمت چه همیشه وي سره دهمیشه والي ستا باقي وي په فضل ستا

وَإِحْسَانِكَ إِلَى أَبَدٍ أَبَدًا ○

او په احسان ستا تر همیشه همیشه پورے چه نه وي

او په احسان ستا تر همیشه همیشه پورے چه نه وي

نَهَايَةَ لَا بَدِيَّتِهِمْ وَلَا فَنَاءَ لِدَيْهِمْ وَمُؤَمِّتِهِمْ

انتہاد ہمیشہ والی دھغے اونہ وی فنا کیدل دھغے دھمیشہ والی دبارہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیہے پہ سردار زمونیر محمد باندمے او پہ آل د سردار

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ

زمونیر محمد باندمے پہ شمار دھغہ چہ گھیرہ اجولے پہ ہغے باندمے

عِلْمِكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَشَهِدَتْ

علم ستا او ضبط کبری دی کتاب ستا او گواہی ور کھے دہ پہ

بِهِ مَلَائِكَتُكَ وَأَرْضٌ عَنْ أَصْحَابِهِ

ہغہ سرہ ملائکو ستا او راضی شے دھغوی دا صحابونہ اورحم

وَأَرْحَمَ أُمَّتَهُ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

او کرے دھغوی پہ امت باندمے بیشکہ تہ دیر ستانیلے شومے نے د بزرگی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

والانی اے اللہ رحمت اولیہے پہ سردار زمونیر محمد باندمے او پہ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ

آل د سردار زمونیر محمد باندمے او پہ تولو اصحابو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

د سردار زمونیر محمد باندمے اے اللہ رحمت اولیہے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندمے او پہ آل و سردار زمونیر محمد باندمے خنکہ چہ

صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ

تا رحمت لیکلے دے زمونیر پہ سردار ابراہیم باندمے برکت او لیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا

پہ سردار زمونیر محمد باندمے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

محمد باندمے خنکہ چہ تا برکت لیکلے دے پہ سردار زمونیر ابراہیم باندمے

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ

او پہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندمے پہ عالمونو کنہے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بِخُشُوعٍ

بیشکھ تہ ذہیر ستانلیے شوے دلویں خاوند نے۔ اے اللہ بہ عاجزی

الْقَلْبِ عِنْدَ السُّجُودِ لَكَ يَا سَيِّدِي

دزہ سرہ تا تہ دسجدو کولو وخت کنیے اے خماسردارہ

بِغَيْرِ دَانِكَارِنَهٗ يَا اللَّهُ يَا جَلِيلُ فَلَا

بغیر دانکارنہ او ستا بہ مدد سرہ اے اللہ اے لویں والا پس ہیخ یو

شَيْءٌ يَدَايْنِكَ فِي غَلِيظِ الْعَهْدِ وَيَكْرِسِيكَ

غیز نہ نزدیے کیری ستا مضبوط لوظونوتہ او بہ کرسی ستا

الْمُكَلَّلِ بِالنُّورِ إِلَى عَرْشِكَ الْعَظِيمِ الْمَجِيدِ

کومہ چہ جہراؤ شوے دہ بہ نور سرہ عرش عظیم او جت تہ۔ او بہ

وَمَا كَانَ تَحْتَ عَرْشِكَ حَقًّا قَبْلَ أَنْ

وسیلہ دہفہ غیز چہ ستاد عرش لاندے دے بہ رشتیا سرہ مخکنیے ددے

تَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَصَوْتِ الرَّعْدِ لَكَ إِذْ

نہ چہ پیدا ذکر ل اسمانو نہ او بہ آواز د غور خو سرہ تا دہارہ چہ

كُنْتَ مِثْلَ مَا لَمْ تَزَلْ قَطُّ الْمَاءُ عَرَفْتَ

تہ رے او مثل دنہ وو ہمیشہ ہیخوک معبود پیژندے شوے نے تہ

بِالتَّوْحِيدِ فَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُحِبِّينَ

سرہ د توحید نہ پس کرے ما دوستی کولو والا

الْمَحْبُوبِينَ الْمُقَرَّبِينَ الْعَارِفِينَ الْعَاشِقِينَ

او دوست کرے شوئے دنزدیکانونہ دعارفانونہ دعاشقانونہ

لَكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

تا د ہارہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا دُودٌ ۝ اللَّهُمَّ

اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے مینہ کونکیہ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

رحمت اولیرے زمونیرہ سردار او مولیٰ محمد باندے بہ شمار دہفہ

مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

چہ چاہیرہ شوے دے بہ ہفے باندے علم ستا۔ اے اللہ رحمت او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ

په سردار زمونیر محمد بانده او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه

كِتَابِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

چه ضبط کره دے هغه لره کتاب ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا نَفَذْتَ بِهِ

زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه جاری شوه دے

قُدْرَتِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

وربانده قدرت ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَصَّصْتَهُ

په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه خاص کره دے هغه لره

إِرَادَتِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اراده ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او په

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ

مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه متوجه شویدے هغه ته

أَمْرِكَ وَتَهْيِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

امر ستا او تهی ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او مولی

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَسَّعَهُ سَمْعُكَ ۞

زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه فراخواله کره دے وربانده اور بدلوستا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

ستا اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده

عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ بَصَرُكَ ۞ اللَّهُمَّ

په شمار دهغه چه احاطه کره ده وربانده لیدلوستا اے الله رحمت

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

نازل کره په سردار زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه

ذَكَرَهُ الذِّكْرُونَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

چه یاد کره دے هغه لره یادونکو. اے الله رحمت نازل کره په سردار

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا غَفَلَ عَنِّ

زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه غافل شوي دي دهغه

ذَكَرَهُ الْغُفْلُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دذکر نہ غفلت کونکی۔ اے اللہ رحمت اولیہیے زمونیر پہ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ ۝

او مولیٰ محمدؐ باندے پہ شمار دشاخکو د بارا نونو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے

عَدَدَ أَوْزاقِ الْأَشْجَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ڈاونو د پانوپہ شمار۔ اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَابِّ الْفَقَارِ ۝

سردار او مولا محمدؐ باندے دخنگل دخناورو پہ شمار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے

عَدَدَ دَوَابِّ الْبِحَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د دریاب دخناورو پہ شمار۔ اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِيَاهِ الْبِحَارِ ۝

سردار او مولا محمدؐ باندے د دریابونو د اوبو پہ شمار اے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے پہ شمار

عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ

دھغہ خیزونوچہ شبے ورباندے تیارہ کرے دہ اوخلیدلے دہ ورباندے

النَّهَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

ورخ۔ اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا

مُحَمَّدٍ بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ۝ اللَّهُمَّ

محمدؐ باندے صبا او بیگاہ۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے پہ شمار

الرِّمَالِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

دشکو(دذرو) اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ

مولا محمد باندے پہ شمار د بنحو او د سرو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لہجے زمونیر پہ سردار او مولا محمد باندے

رِضَاءَ نَفْسِكَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ اندازہ درضاد ذات ستا. اے اللہ رحمت اولہجے زمونیر پہ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ ○

او مولا محمد باندے پہ اندازہ د سیاہی د کلماتو ستا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لہجے زمونیر پہ سردار او مولا محمد باندے

مِلَّ سَمَوَاتِكَ وَأَرْضِكَ ○ اللَّهُمَّ

پہ کوالی د آسمانونو او د زمکے ستا. اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِينَةً

رحمت او لہجے زمونیر پہ سردار او مولا محمد باندے پہ وزن

عَرْشِكَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

د عرش ستا. اے اللہ رحمت او لہجے زمونیر پہ سردار او

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَخْلُوقَاتِكَ ○ اللَّهُمَّ

مولا محمد باندے پہ شمار د مخلوقا تو ستا. اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ

رحمت او لہجے زمونیر پہ سردار او مولا محمد باندے غوره

صَلَوَاتِكَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ○

رحمتو نہ خپل. اے اللہ رحمت او لہجے د رحمت والا پیغمبر باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى شَفِيعِ الْأُمَّةِ ○ اللَّهُمَّ

اے اللہ رحمت اولہجے زمونیر دامت پہ شفاعت کونکي باندے اے اللہ

صَلِّ عَلَى كَاشِفِ الْغَمِّ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

رحمت او لہجے د تکلیفونو لے کونکي باندے. اے اللہ رحمت

عَلَى مُجِبِّ الظُّلْمَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

او لہجے پہ رنرا کونکي د تیارے باندے. اے اللہ رحمت او لہجے پہ

مَوْلَى التَّعَمَّةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَوْلٰى

صاحب ذنعت باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ

الرَّحْمَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ

رحمت باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دھغہ حوض

الْحَوْضِ لَمُرُوْدٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

چہ تہول اُمت بہ پرے تیریری۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ

صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

صاحب ذ مقام محمود باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے

عَلٰى صَاحِبِ الْوِآءِ الْمَعْقُوْدِ ۝ اَللّٰهُمَّ

پہ صاحب ذ جنلمے ودرولے شومے باندے۔ اے اللہ رحمت

صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ لِمَكَانِ الْمَشْهُوْدِ ۝

اولیبرے پہ صاحب ذ مکان چہ ورتہ حاضر کرے شومے ووهغہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَمِ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ هغہ ذات چہ موصوف شویدے پہ کرم

وَالْجُوْدِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ فِى

اوسخاوت سره۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ هغہ هستی باندے چہ هغہ پہ

السَّمَاۗءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَفِى الْاَرْضِ

اسمان کنبے زمونیر سردار محمود دے۔ او پہ زمکہ کنبی زمونیر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ

سردار محمد دے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دمہر نبوت

الشَّامَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْعِلْمِ

باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ نخبے باندے اے اللہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَامَةِ ۝

رحمت او لیبرے پہ هغہ ذات چہ موصوف شومے دے پہ بزرگی سره اے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الْمَخْصُوْصِ بِالرَّعَايَةِ ۝

اللہ رحمت او لیبرے پہ هغہ ذات چہ خاص کرے شویدے پہ سرداری سره

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ كَانَ تَظْلُهُ الْعِمَامَةُ ۝

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ هغہ ذات چہ شورے بہ ورباندے کولو ورنخ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ يَرَى مَنْ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہفتہ ذات چہ لیدل بہ نے ہفتہ شوک چہ ترینہ بہ

خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامَهُ ۝ اللَّهُمَّ

روستوو و خنگہ چہ بہ برز لیدل ہفتہ شوک چہ ترینہ مخکینے بہ ووائے اللہ رحمت

صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ الْمَشْفُوعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

اولیبرے پہ شفاعت کونکی او شفاعت قبول کرے شوی باندرے پہ ورخ دقیامت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الصَّرَاةِ ۝

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دعا جز والی اوزاری باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الشَّفَلَةِ ۝

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ شفاعت باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَوْسِيلَةَ ۝

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ وسیلے باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَفْضِيلَةَ ۝

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دفضیلے باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ ۝

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب داوجے مرتبے والا باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَهْرَاوَةِ ۝

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دھمسا باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ التَّعْلِينِ ۝

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ نعلینو باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْحُجَّةِ ۝

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دحجت باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لُبْرُهَانَ ۝

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ددلیل باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ السُّلْطَانِ ۝

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ غلبے باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ التَّاجِ ۝

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ تاج باندرے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بَكَى

لمعام. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ ڈرلی وو

إِلَيْهِ الْجَدْعُ وَحَنَّ لِفِرَاقِهِ

ہفہ تہ د کجورے تنے او ڈرائے کرے دہ پہ فراق دہفہ. اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ طَيْرُ الْفَلَاقَةِ

رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ وسیلہ نیولے دہ پہ ہفہ سرہ دخنکل مارغانو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَتْ فِي كَفِّهِ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ تسبیح ویلے وہ پہ ورغوی دہفہ

الْحِصَاةُ

کنبے کورت کانرو. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ سفارش لہ راغلہ

إِلَيْهِ الطَّبِيُّ بِأَفْصَحِ الْكَلَامِ

ورته ہوسے پہ فصیح کلام سرہ. اے اللہ رحمت او لیبرے

صَلِّ عَلَى مَنْ كَلَّمَهُ الصَّبُّ فِي مَجْلِسِهِ

پہ ہفہ چاچہ خبرے ورسرہ کرے دی سمسارے پہ مجلس دہفہ کنبے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَيْعْرَاجٍ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب د معراج باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لُقْضَيْبٍ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب د شمشیر باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ النَّجِيبِ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ سور د اصیلے اوبنے باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ لُبْرَاقٍ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ سور د بُراق باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُخْتَرِقِ السَّبْعِ الطَّبَاقِ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ تیریلونکی د او طبقو د آسمان باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ الْأَنَامِ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ شفاعت کونکی دتول مخلوق باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَتْ فِي كَفِّهِ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ تسبیح ویلے وہ پہ ورغوی دہفہ کنبے

مَعَ أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

سرہ دخیلو بزرگانو. اے اللہ رحمت او لیجے

عَلَى الْبَشِيرِ النَّذِيرِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

بہ زبیر و رکونکی او یرونکی باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ

السَّراجِ الْمُنِيرِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

دیوے رویشانہ باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ ہفہ ہستی

شَكَرَ إِلَيْهِ الْبَعِيرُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

چہ اویں ورتہ شکایت کرے وو. اے اللہ رحمت او لیجے بہ ہفہ چا

مَنْ تَفَجَّرَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ الْمَاءِ

چہ روانے شوے وے د مینخ دکوتو دھغوی نہ اوجے

التَّيْرِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى لَطِيفِ الْمَطَهْرِ

صفا. اے اللہ رحمت او لیجے بہ پاک او پاک شوے باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الْأَنْوَارِ ○ اللَّهُمَّ

اے اللہ رحمت او لیجے بہ نورونو بہ نور باندے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَنْ انشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ ○ اللَّهُمَّ

رحمت او لیجے بہ ہفہ ہستی چہ دوہ تگرے شوے وہ ہفہ دبارہ سپورمی

صَلِّ عَلَى الطَّيِّبِ الْمَطِيبِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ رحمت او لیجے بہ خوشبودار پاکیزہ باندے. اے اللہ رحمت او

عَلَى الرَّسُولِ الْمُقَرَّبِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

لیجے بہ رسول مقرب باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ

الْفَجْرِ السَّاطِعِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّجْمِ

صبا رنرا خورونکی باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ ستوری

التَّاقِي ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ○

خلیدونکی باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ دستاویز محکم باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَذِيرِ أَهْلِ الْأَرْضِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے بہ یرونکی دزمکہ اوسیلونکو باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ يَوْمَ الْعَرْشِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے بہ شفاعت کونکی دورخ د قیامت باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّاقِي لِلنَّاسِ مِنْ

اے اللہ رحمت او لیجے پہ شگونکی پہ خلقو باندھے ذ

الْحَوْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

حوض نہ. اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب ذجھنڈے

لِوَاءِ الْحَمْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُشَمَّرِ

دحمد باندھے. اے اللہ رحمت او لیجے پہ خیزونکی دلستوری

عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دکوش ذ ست نہ. اے اللہ رحمت او لیجے پہ عمل کونکی

الْمُسْتَعْمِلِ فِي مَرْضَاتِكَ غَايَةَ الْجَهْدِ

ستاپہ رضامندی طلب کولوکنے پہ دیر کوشش سرہ اے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْخَاتَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

رحمت او لیجے پہ نبی نبوت ختمونکی باندھے. اے اللہ رحمت او لیجے

عَلَى الرَّسُولِ الْخَاتَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُصْطَفَى

پہ رسول نبوت ختمونکی باندھے. اے اللہ رحمت او لیجے پہ مصطفیٰ

الْقَائِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ أَبِي الْقَاسِمِ

قائم باندھے. اے اللہ رحمت او لیجے پہ خپل رسول ابو القاسم باندھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْإِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب دنخینو باندھے. اے اللہ رحمت او لیجے

عَلَى صَاحِبِ الدَّلَالَاتِ اللَّهُمَّ

پہ صاحب ذ لار خود لو باندھے. اے اللہ رحمت

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ إِشَارَاتِ اللَّهُمَّ

او لیجے پہ صاحب داشاراتو باندھے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لِكْرَامَاتِ اللَّهُمَّ

رحمت او لیجے پہ صاحب کراماتو باندھے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لِعَلَامَاتِ اللَّهُمَّ

رحمت او لیجے پہ صاحب ذ علاماتو باندھے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ

رحمت او لیجے پہ صاحب ذ دلیلونو باندھے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْمُعْجَزَاتِ اَللّٰهُمَّ
 رَحْمَتِ او لِيَرِي د معجزاتو په خاوند باندې. اے الله
 صَلِّ عَلَى صَاحِبِ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ
 رَحْمَتِ او لِيَرِي د خرق عادت کارونو په صاحب باندې
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مِنْ سَلَمَتٍ عَلَيَّ
 اے الله رحمت او لِيَرِي په هغه چاچه سلام کړې دې ورته
 الْاَشْجَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مِنْ سَجْدَةٍ
 کانډو. اے الله رحمت او لِيَرِي په هغه چاچه سجده کړې ده
 بَيْنَ يَدَيْهِ الْاَشْجَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
 دهغه په وړاندې اونو. اے الله رحمت او لِيَرِي
 عَلَيَّ مِنْ تَقَاتٍ مِنْ نُورِ الْاَزْهَارِ
 په هغه چا وتلي دي د نور دهغه نه کلنې اے الله رحمت
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مِنْ طَابَتْ بِبَرَكَتِهِ
 او لِيَرِي په هغه چا باندې چه پخې شوم دي دهغه په برکت سره

الْتِمَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مِنْ اخْضَرَّتْ
 مسوې. اے الله رحمت او لِيَرِي په هغه چاچه شنه شوم دي
 مِنْ بَقِيَّةِ وَصْوِيهِ الْاَشْجَارِ اَللّٰهُمَّ
 دهغه د اودس نه پاتې اوبو سره اونو. اے الله
 صَلِّ عَلَيَّ مِنْ قَاضَتْ مِنْ مَوْرِهِ
 رحمت او لِيَرِي په هغه چاچه ظاهر شوي دي دهغه دنور نه
 جَمِيْعِ الْاَنْوَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ
 ټول انوار. اے الله رحمت او لِيَرِي په هغه چا
 مِنْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيَّ تَحْتَ الْاَوْزَارِ
 چه په هغه باندې درود ليرلو سره رږيرې گناهونه
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مِنْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيَّ
 اے الله رحمت او لِيَرِي په هغه چا باندې درود دليکلو سره
 تِنَالِ مَنَارِ الْاَبْرَارِ اَللّٰهُمَّ
 حاصليرې مرتبې دنيکاتو. اے الله

صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يُرْحَمُ

رحمت اولیبرے پہ ہفہ چاہاندچہ پہ ہفہ باندمے ددرو دلیکلو سرہ رحم

الْكَبَارُ وَالصَّغَارُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

کولے شی پہ مشرانو او کشرانو باندمے. امے اللہ رحمت اولیبرے پہ ہفہ

عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَتَنَعَّمُ فِي هَذِهِ

چاہاندمے چہ پہ ہفہ باندمے درو دلیکلو سرہ نعمتو نہ حاصلیری مونیرتہ

الدَّارِ وَفِي تِلْكَ الدَّارِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ دے جہان کنیرے ہم او پہ ہفہ جہان کنیرے ہم. امے اللہ رحمت اولیبرے

عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَنَالُ رَحْمَةً

پہ ہفہ چاہاندمے چہ پہ ہفہ باندمے درو دلیکلو سرہ رسیبری رحمت

الْعَزِيزِ الْعَقَّارِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَنُصُورِ

د غالب بخینونکی اللہ. امے اللہ رحمت اولیبرے پہ مدد کرے شوی

الْمُؤَيَّدِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ

تانید کرے شوی باندمے. امے اللہ رحمت اولیبرے پہ غورہ کرے شوی

الْمُسَجَّدِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

عزت ور کرے شوی باندمے. امے اللہ رحمت اولیبرے زمونیر پہ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

او مولی محمد باندمے. امے اللہ رحمت اولیبرے پہ ہفہ

مَنْ كَانَ إِذَا مَشَى فِي الْبَرِّ إِلَّا قَفَرَ

چاہاندمے چہ کلہ بہ روان وو پہ او چو میدانونو کنیرے

تَعَلَّقَتْ الْوُحُوشُ بِأَذْيَالِهِ ○ اللَّهُمَّ

نوناختل بہ وحشی خناورد ہغوی لمنو سرہ. امے اللہ رحمت اولیبرے

صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

پہ ہغوی باندمے او دھغوی پہ آل او اصحابو باندمے او سلام اولیبرے دیردیر

تَسْلِيمًا ○ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

سلام. او تبول تعریفونہ خاص اللہ دہارہ دی چہ دتبولو عالمونو بالونکرے دے



إِبْتِدَاءُ الرَّبِيعِ الثَّانِي

دویم ربع شروع

أَحْمَدُ لِلَّهِ عَلَى حَلِيمِهِ بَعْدَ عَلَيْهِ وَعَلَى

تبول تعریفونہ اللہ لہ دی پہ حلم دھغہ پس د علم دھغہ او پہ

عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

عفوہ دھغہ پس د قدرت دھغہ۔ اے اللہ زہ پناہ نیسم

بِكَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ ۝ وَمِنَ الذُّلِّ

پہ تاسرہ دمحتاجی نہ مکرستا طرفہ۔ او ذلیل والی نہ

إِلَّا لَكَ وَمِنَ الْخَوْفِ إِلَّا مِنْكَ ۝ وَ

مکر ستا طرفہ او د ویرے نا مکر دتا نہ۔ او

أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ زُورًا ۝ أَوْ أَغْشَى

پناہ غوارم پہ تاسرہ چہ اووایم دروغ خیرہ یازتکاب او کرم

فُجُورًا ۝ أَوْ أَكُونَ بِكَ مَغْرُورًا ۝ وَ

ذبدو کارونو یا شمشہ زہ پتا سرہ مغرور او

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَعُضَالِ

پناہ غوارم پہ تاسرہ د خوشالیدلو د دشمنانونہ او د سختی

الذَّاءِ وَخَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَزَوَالِ النِّعْمَةِ وَ

بیماری نہ او دامیلندہ موندلونہ او د نعمت د زوال نہ او

فَجَاءَةِ النِّقْمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ناسانی مصیت د اے اللہ رحمت اولیرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَأَجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ

محمد باندمے او سلام اولیرے پہ ہغہ باندمے او بدلہ ور کرے ہغوی تہ زمونیر نہ

أَهْلُهُ حَبِيبِكَ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کومہ چہ لائقہ دہ ہغہ سرہ ستاحیوب دے (درے خل دلواہی) اے اللہ رحمت اولیرے

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَأَجْزِهِ عَنَّا

زمونیر پہ سردار ابراہیم باندمے او سلام پرے اولیرے او بدلہ ور کرے ہغوی تہ زمونیر نہ

مَا هُوَ أَهْلُهُ خَلِيلِكَ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

کومہ چہ لائقہ دہ ہغوی سرہ۔ ستاخلیل دے (درے خل) اے اللہ رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زمونیرپہ سردار محمد باندے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے

كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحَّمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى

خنکے چه ددرو دلکے دے اور رحمت دلکے دے او برکت دلکے دے

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ

زمونیرپہ سردار ابراہیم باندے پہ تو لو عالمو کنے بیشکے ته ستائے

حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا

شوعے او دلوئی والائے . به شمار دمخلوق خیل او به رضامندی ذات

نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَوِدَادَ كَلِمَاتِكَ

خیل اوپه برابر وزن دعرش خیل . اوپه مقدار دسیاهی دکلماتو خیلو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ درود او لیرے زمونیر آ سردار محمد باندے به شمار

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دهغه چاچه درودے لیکلے دے به هغه باندے . اے اللہ درود او لیرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

زمونیرپہ سردار محمد باندے به شمار دهغه چاچه درودے نه دے لیکلے به هغه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

باندے اے اللہ درود او لیرے زمونیرپہ سردار محمد باندے به شمار دهغه

مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

چه درود لیکلے شوعے دے به هغه باندے . اے اللہ درود او لیرے زمونیرپہ سردار

مُحَمَّدٍ أضعاف ما صَلَّيْتَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ

محمد باندے دو چند دهغه چه درود لیکلے شوعے دے به هغه باندے . اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ

درود او لیرے زمونیرپہ سردار محمد باندے خنکے چه هغه ددے اهل دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

اے اللہ درود او لیرے زمونیرپہ سردار محمد باندے خنکے

تُحِبُّ وَتَرْضَاهُ ۝

ته خوبنوعے او راضی کیرے دهغه نه

الْحَزْبُ الثَّلَاثُ
مُحَلِّمٌ حَزْبٌ دَجَارٌ شَنِعٌ دُورُخٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اے اللہ رحمت او لیرے پہ روح د سردار زمونیرل چہ محمد دے

فِي الْأَرْوَاحِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ
پہ ارواحانو کنبے او پہ بدن دھغوی پہ بدنونو کنبے

وَعَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُورِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
اوپہ قبر دھغوی پہ قبرونو کنبے اوپہ آل دھغوی اوپہ اصحابو دھغوی

وَسَلِّمْ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اوسلام پرے اولیرے اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد

كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذُّكْرُونَ ۝ اللَّهُمَّ
باندمے كلہ چہ یا ذوی ہفہ لره یا ذونکی . اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ
رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندمے . ہر کلہ چہ غفلت کوی

عَنْ ذِكْرِهِ الْغَفْلُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ
دیاد دھغہ نہ غفلت کونکی . اے اللہ رحمت اولیرے

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
اوسلام اولیرے او برکت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندمے چہ نبی دے

الرَّمِيِّ وَأَزْوَاجَهُ أَهْمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
آمی دے او دھغوی پہ بیبیانو باندمے چہ د مسلمانانو میندمے دی

وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ صَلَوةً وَسَلَامًا
اودھغوی پہ اولاد باندمے او دھغوی پہ اهل بیوت باندمے داسے درود او سلام

لَا يُحْصَى عَدَدُهُمَا وَلَا يُقْطَعُ مَدَدُهُمَا ۝
چہ نشی پورہ کیدمے شمار دھغہ اونشی پریکیدمے زیاتوالے دھغے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ
اے اللہ رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندمے پہ شمار

مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ
دھغے چہ احاطہ پرے کرے وی علم ستا او محفوظ کرے وی کتاب ستا

دلائل نبوت ۱۶۶

صَلَاةٌ تَكُونُ لَكَ رِضَةً وَرِحْمَةً أَدَاءً

داسے درود چہ شی تادپارہ راضی کیدل اوشی دحق دھغہ دپارہ ادا کیدل

وَأَعْطَاهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ

او ورکھے ورلہ وسیلہ اوفضیلت او درجہ

الرَّفِيعَةَ وَابْعَثَهُ اللَّهُمَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ

او چتہ اوڑے لیبے ہغہ مقام محمود تہ چہ تانے

الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْرَهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

ورسره وعدہ کرے دہ اوبدلہ ورکھے ورلہ زمونیر دطرفہ دکومے چہ

وَعَلَىٰ جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ

ہغہ لائق دے او بہ تولو پیغمبرانو اورونو دھغوی

الصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

او بہ صدیقانو او شہیدانو او نیک بختانو باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ

اے اللہ رحمت اولیبے زمونیر بہ سردار محمد باندے اوراکوڑے کرے

الحزب الثالث ۱۶۷

الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ

داسے منزل تہ چہ مقرب وی بہ ورخ دقیامت. اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ تَوَجَّهْ

رحمت اولیبے زمونیر بہ سردار محمد باندے. اے اللہ عطا کرے ہغوی تہ

بِتَاجِ الْعِزِّ وَالرِّضَا وَالْكَرَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ

تاج دعزت او رضامندی او عزتمندی. اے اللہ

أَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ

ورکھے زمونیر سردار محمد تہ غورہ دھغے نہ چہ سوال کرے دے ہغوی

لِنَفْسِهِ وَأَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ

دخپل خان دپارہ او ورکھے زمونیر سردار محمد تہ غورہ دھغہ نہ

مَا سَأَلَكَ لَهُ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ وَأَعْطِ

چہ تانہ سوال کرے دے یوتن د مخلوق ستانہ او ورکھے

لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا أَنْتَ مَسْئُولٌ

زمونیر سردار محمد تہ غورہ دھغے نہ چہ تانہ نے سوال شوے دے

لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

هغوی دپاره دقیامت ترورخ پورے۔ اے اللہ رحمت اولییرے زمونیر به

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَيِّدِنَا آدَمَ وَسَيِّدِنَا

سردار محمد باندے اوزمونیر به سردار آدم باندے اوزمونیر به سردار

نُوحٍ وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدِنَا مُوسَى

نوح باندے اوزمونیر به سردار ابراهیم باندے اوزمونیر به سردار موسی باندے

وَسَيِّدِنَا عِيسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

اوزمونیر به سردار عیسی باندے او کوم چه دهغوی په مینخ کنیے دی پیغمبران

وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ

اورسولان رحمتونه د اللہ د وی اوسلامونه دهغه دوی به هغوی

عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

تولو باندے۔ درے خل د اوائی۔ اے اللہ درود اولیرے به

عَلَى آيِنَا سَيِّدِنَا آدَمَ وَأُمَّنَا سَيِّدَتِنَا

پلارزمونیر به سردار آدم باندے اوزمونیر به مور اوزمونیر به سردار

حَوَّاءَ صَلَوَاتُ مَلَائِكَتِكَ وَأَعْظِمَا مِنْ

حوا بی بی باندے درود د ملائکو او ورکھے دوارو له درضا مندی نه

الرِّضْوَانِ حَتَّى تُرَضِّيَهُمَا وَأَجْزِيَهُمَا ۝ اللَّهُمَّ

تردے پورے چه راضی کرے دوارولره اوبدله ورکھے دواروله اے اللہ

أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ أَبَاوَأُمَّاعَنَ وَ

غوره دهغه نه چه تابدله ورکھے ده به هغه سره پلار اومورله دهغوی

لَدَيْهِمَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دبجو دطرفنه اوزمونیر به سردار میکائیل باندے اوس زمونیر به سردار

جِبْرِيلَ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيلَ وَسَيِّدِنَا

جبرائیل باندے۔ اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر به سردار

إِسْرَافِيلَ وَسَيِّدِنَا عِزْرَائِيلَ وَحَمَلَةَ

اسرافیل باندے اوزمونیر به سردار عزرائیل باندے او به او چتونکو

الْعَرْشِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ

د عرش باندے او به تولو فرشتو او مقربینو باندے

وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَواتُ اللَّهِ

او به تولو نبيانو او مرسلانو باندے. رحمتو نه دالله

اللَّهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ثَلَاثًا ۝

او سلامونه دهغه دپه هغوی تولو باندے وي (دے کرت دے وواتي)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ

اے الله رحمت اوليبرے زمونير په سردار محمد باندے په شمار دهغه

مَا عَلِمْتَ وَمِمَّا مَا عَلِمْتَ وَزِنَةَ مَا

چه تا ته معلوم دي او په ډکوالي دهغه چه تا ته معلوم دي او

عَلِمْتَ وَمِمَّا أَدَكَلِمَاتِكَ ۝ اللَّهُمَّ

په وزن دهغه چه تاته معلوم دي او په مقدار دسياهی دکلماتو ستا. اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً مَوْصُولَةً

رحمت اوليبرے زمونير په سردار محمد باندے داسے رحمت چه يو خانے

بِالْمَزِيدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

شوعے وي زياتوالي سره. اے الله رحمت اوليبرے زمونير په سردار

مُحَمَّدٍ صَلَوةً لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا أَبَادًا وَلَا

محمد باندے داسے رحمت چه نه کت کيري ابدالابا د پورے او نه فنا

تَنْبِيْدًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کيري. اے الله رحمت او ليبرے زمونير په سردار محمد باندے ستا

صَلَاةِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هغه رحمت چه تاور باندے ليکلے دے او سلام اوليبرے زمونير په

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَامِكَ الَّذِي

سردار محمد باندے ستا هغه سلام کوم چه تالیکلے دے په هغوی باندے

سَلَّمْتَ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

اوبدله ورله ورکړے زمونير دطرفنه د کومے چه هغه اهل دے اے الله رحمت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

او ليبرے زمونير په سردار محمد باندے داسے رحمت چه راضي کړي

تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَىٰ بِهَا عَسَا

تالره او ته راضي کړے هغه لره او راضي شے ته دهغه په وجه زمونير نه

مَا هُوَ أَهْلُهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او جزاورد کرے زمونیر دظرفہ دکومر چہ ہفہ اهل دے اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ

مُحَمَّدٍ بِخِرَانِ نَوَارِكِ وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكِ

سردار محمداہلے شوک چہ دریاب دے دنواروستا اور معدن دے درازونوستا

وَلِسَانِ مَجْمَعِكَ وَعُرْوَسِ مَمْلَكَتِكَ

او ژبہ دہ دے حجت ستا او خلمے دے د مملکت ستا

وَأَمَامِ حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَ

اوامام دے دے دربار ستا او نقس دے د ملک ستا او

خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ

خزانے دے دے رحمت ستا او لارہ دہ د شریعت ستا

الْمُتَلَدِّذِ بِتَوْحِيدِكَ إِنْسَانَ عَيْنِ

لذت موندونکے دے د توحید ستا کاکے دہ دستر گو

الْوَجُودِ وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ عَيْنِ

دموجوداتو او سبب دے پہ ہر موجود کینے سترگہ دہ

أَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُورِ

داوحت مخلوق ستا وراہدے کیدونکے دے ستاد نور پہ زہر اسرہ داسے

ضِيَائِكَ صَلَوةً تَدُومٌ يَدِ وَأَمِكَ وَ

رحمت چہ ہمیشہ اوسے ستا پہ ہمیشہ والی سرہ اوباقی پاتے وی

تَبْقَى بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لِهَادُونَ عِلْمِكَ

ستا پہ باقی والی سرہ چہ نہ وی انتہا ہفے لہرہ سوا ذعلم ستانہ داسے

صَلَوةً تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضِي بِهَا

رحمت چہ تراضی کرے اوتہ نے راضی کرے اوراضی شے پہ ہفے سرہ

عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

زمونیر نہ اے دے مخلوقاتو پالونکیہ اے اللہ رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ

زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار ڈھفے چہ پہ علم داللہ

اللهِ صَلَوةً دَائِمَةً يَدِ وَأَمِ مُلْكِ اللَّهِ

کینے دے داسے رحمت چہ ہمیشہ وی پہ ہمیشہ والی ذملک داللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

أص الله رحمت او لبرے زمونیر به سردار محمد باندے خنکھ چه تا

صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ

رحمت لبرے دے زمونیر به سردار ابراهیم باندے اوبرکت او لبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمونیر به سردار محمد باندے او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا

محمد باندے خنکھ چه تا برکت لبرے دے په سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

ابراهیم باندے په علمونو کنیے بیشکه ته ډیر ستائیلے شوم ډیر رچی

عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَةَ نَفْسِكَ وَزِينَةَ

والانے په شمارد مخلوق خیل او په رضا والی ذات خیل او په وزن

عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ وَعَدَدِ مَا

دعرش خیل او په مقدار د سیاهی د کلماتو خیلو او په شمار دهغه

ذَكَرَكَ بِهِ خَلْقِكَ فِيمَا مَضَى وَعَدَدِ مَا هُمْ

چه یاد کرے دے تالره مخلوق ستا په تیره شوم زمانه کنیے او په شمار

ذَكَرْتَنكَ بِهِ فِيمَا بَقِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ

دهغه چه هغوی ذکر کونکي ستا دي په باقی وخت کنیے په هر کال کنیے او

شَهْرٍ وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ

په هره میاشت کنیے او په لره جمعه کنیے او په هره ورځ او شپه کنیے او په

مِنَ السَّاعَاتِ وَشِرِّ نَفْسٍ وَطَرَفَةٍ

هری گهری کنیے دکهر و نه او دخوشیو رسیدلونه او دساه اخستلونه

وَلَمَحَّةٍ مِّنَ الْأَيْدِي إِلَى الْأَيْدِي وَأَبَادٍ

اودستر گوزپولونه او په مقدار دنظر کولو د زمانے ابتدانه د زمانے آخره پورے

الدُّنْيَا وَأَبَادٍ الْآخِرَةِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ

اودابتدای د زمانے د دنیا نه آخره زمانے د آخرت پورے او زیادت

لَا يَنْقُطُ أَوَّلُهُ وَلَا يَنْقُذُ آخِرُهُ ○

دده نه چه نه منقطع شی اول دهغه او نه فنا شی آخر دهغه

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلٰى

اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے پہ قدر

قَدْرٍ رَحْمَتِكَ فِيْهِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

د محبت سرہ ہفہ سرہ۔ اے اللہ رحمت او لبرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلٰى قَدْرٍ رِعْنَابَتِكَ فِيْهِ ۝

سردار زمونیر محمدؐ باندے پہ قدر دعنائت سرہ ہفہ سرہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَقًّا

اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے لائق

قَدْرًا وَمَقْدَارًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

دقدر دھفہ او دمقدار۔ اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ

سردار محمدؐ باندے داسے رحمت چہ نجات راکرے مونیر تہ پہ ہفہ سرہ

جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا

دتولو ویرو او آفتونونہ اوپورہ کرے تہ مونیر دپارہ

بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا

دھفہ پہ وجہ تول حاجتونہ اوچہ پاککرے تہ مونیر لہ پہ ہفہ سرہ

مِنْ جَمِيْعِ السِّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلٰى

دتولو بدیانونہ اوچہ پورتہ کرے تہ مونیر پہ ہفہ سرہ پہ اعلیٰ

الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَا الْغَايَاتِ

درجوسرہ او چہ اور سوے مونیر پہ ہفہ سرہ آخری نہایتونہ

مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِيْ الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ

د تولو نیکو نہ پہ ژوند کنے ہم او روسو

السَّمَاوَاتِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

دمرگ نہ ہم۔ اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ صَلَوةً الرِّضَىٰ وَارْضَ عَنِ

محمدؐ باندے داسے رحمت چہ درضا باعث وی او راضی شے د

اَصْحَابِهِ رِضَاءَ الرِّضَىٰ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اصحابو دھفوی نہ درضامندی پہ رضا سرہ۔ اے اللہ رحمت او لبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِدَخْلِكَ

په سردار زموڼيز محمد باندې چه ډمخکښې نه دې مخلوق دپاره نور دهغوی

نُورُهُ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدُ

اور رحمت دې عالمونو دپاره ظهور دهغوی په شمار دهغه چاچه تیر شوي

مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ وَ

دې دمخلوق ستانه او څوک چه باقي دي او څوک چه نیک بخت شوي دي

مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةٌ

په هغوی کښې او څوک چه بدبخت شوي دي داسې رحمت چه راکیر

تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوةٌ

کړې شمار لره او احاطه او کړې په حد باندې داسې رحمت چه نه

لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهَى وَلَا انْقِضَاءً

وي غایت هغه لره او نه وي انتها او نه وي تمامیدل داسې رحمت

صَلَوةٌ دَائِمَةٌ يَدُ وَاِمْكٍ وَعَلَى إِلَهٍ وَ

چه همیشه وي په همیشه والي ستاسره او په آل دهغوی او

صَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مِثْلَ ذَلِكَ

په اصحابو دهغوی او اولیې سلام پشان ددې

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ای الله رحمت او لیې زموڼيز په سردار محمد باندې دچاچه

مَلَأَتْ قَلْبَهُ مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْتَهُ

زړه ډک کړې دې تا دخپل جلال نه او سترگه دهغوی دخپل جمال

مِنْ جَمَالِكَ فَأَصْبَحَ فَرِحًا مُؤَيَّدًا مَنصُورًا

نه نو شولو خوشاله مدد موندونکې فتحه موندونکې او دهغوی په آل

وَعَلَى إِلَهٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ

باندې او دهغوی په اصحابو باندې او سلام اولیې او ټول تعريف

لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الله دپاره دې په دې باندې ای الله رحمت اولیې زموڼيز په سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ الزَّيْتُونِ

او زموڼيز په مولا محمد باندې په شمار د پانړو د زيتون

وَجَمِيعِ الثَّمَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او دتولو میوو. اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر په سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ ۝

او مولا محمد باندے په شمار دھے چه شوي دي او كيدونكي دي

وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءُ ۝

اوپه شمار دھے چه تياره كړه ده ورباندے شه او رنرا شوه ده

عَلَيْهِ النَّهَارُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورباندے ورځ. اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر په سردار او مولا محمد

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ

باندے او دھغوی په آل باندے او دھغوی په بیبیاو باندي او دھغوی په اولاد

وَذُرِّيَّتِهِ عَدَدَ أَنْفَاسِ أُمَّتِهِ ۝ اللَّهُمَّ

باندے په شمار دسه گانو دامت دھغوی. اے اللہ په برکت درو

بِبَرَكَاتِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ

دسره په هغوی باندے او کړو په هغوی باندے درو دلکلو سره

عَلَيْهِ مِنَ الْفَائِزِينَ وَعَلَى حَوْضِهِ

د کاميابونكونه او په حوض دھغوی باندے

مِنَ الْوَارِدِينَ الشَّارِبِينَ وَبِسُنَّتِهِ ۝

تيريدو نكو سكو نكو نه او دھغوی په طريقے باندے

وَطَاعَتِهِ مِنَ الْعَامِلِينَ ۝ وَلَا تَحُلْ

او دھغوی په طاعت باندے عمل كونونه. او پرده مذجو

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

زمونیر او دھغوی تر مينځه د قيامت په ورځ اے رب العالمينه

وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ۝

او اوبخښه مونيره او زمونيره مورپلار او ټول مسلمانان

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

او ټول تعريفونه اللہ دپاره دي چه پالونکے دتولو عالمونودے

ابْتِدَاءُ الثَّلَاثِ الثَّانِي

دویم ثلث شروع

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

ای الله رحمت او لبرے او سلام او برکت او لبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِيمٍ

محمد باندے او پہ آل دسردار زمونیر محمد باندے چه دیر عزتمندے

خَلْقِكَ وَسِرَاجِ أَفْقِكَ وَأَفْضَلِ قَائِمٍ

ستا پہ مخلوق کنے او چراغ دے دکنارے دآسمان ستاغوره قائمے

يَحَقِّقُ الْمَبْعُوثِ بِتَيْسِيرِكَ وَرَفْقِكَ

پہ حق ستا لیکلے شوم دے ستاپہ اسانولو سره او ستاپہ نرمی سره

صَلَاةٍ يَتَوَالِي تَكَرُّرُهَا وَتَلَوُّهُ عَلَى

داسے رحمت او لبرے چه پرله پسے وی تکرار دھغے او خلیری پہ

الْأَكْوَانِ أَنْوَارُهَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

موجوداتو باندے أنوار دھغے ۝ ای الله رحمت او لبرے

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝

او سلام او برکت او لبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَدْرَجٍ

او زمونیر دسردار محمد په آل باندے کوم چه غوره صفت کرے شوم دے

يَقُولِكَ وَأَشْرَفِ دَاعٍ لِلْإِعْتِصَامِ

ستاہ قول سره اولونے شرافت والابلونکے دے دپاره قضاوتے نیولو

بِحَبْلِكَ وَخَاتِمِ أَنْبِيَائِكَ وَسُرِّسِكَ

درسی ستا او خاتم دے دنیاونو ستا او درسونو ستا داسے رحمت او

صَلَاةٍ تَبْلِغُنَا فِي الدَّارَيْنِ عَمِيمٍ فَضْلِكَ

لبرے چه ته او رسوے مونیرہ پہ دوارو جهانو کنے عام فضل خیل ته

وَكَرَامَةِ رِضْوَانِكَ وَوَصْلِكَ ۝

او کرامت درضا مندی خیلے او دوصال خیل ته ای الله

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

رحمت او لبرے او سلام او برکت او لبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِيمٍ

محمد باندے او پہ آل زمونیر د سردار محمد باندے چه ڈیر عزتمند دے

الْكَرْمَاءِ مِنْ عِبَادِكَ وَأَشْرَفِ الْمُنَادِينَ

پہ تلو عزتمند کنیے د بندگانو ستانہ او ڈیر شرافت والادے پہ ندا کونکو کنیے

لِطُرُقِ رَشَادِكَ وَسِرَاجِ أَقْطَارِكَ وَيَا دِرْكَ

ستادهدایت لارے طرفتہ او چراغ دے دزمکود کنار وستا او ذبنار یوستا

صَلْوَةً لَا تَقْفُ وَلَا تَبِيدُ تُبَلِّغُنَا بِهَا كَرَامَةَ

داسے رحمت پرے اولیرے چه نہ فنا کیری او نہ ختمیری چه او رسوے

الْمَزِيدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

مونیرہ ہفے سرہ زبانی عزت تہ اے اللہ رحمت اولیرے او سلام او برکت

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ الرَّفِيعِ مَقَامُهُ الْوَاجِبُ تَعْظِيمُهُ

محمد باندے چه او چت دے مقام دہفہ او واجب دے تعظیم دہفہ

وَاحْتِرَامُهُ صَلْوَةً لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا وَلَا

او احترام دہفہ داسے رحمت چه نہ منقطع کیری ہیجرے او نہ

تَقْنِي سَرْمَدًا وَلَا تَنْحَصِرُ عَدَدًا ۝

فانی کیری ہمیشہ وی او نہ وی منحصر پہ شمار کنیے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اے اللہ رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنگہ چه تارحمت لیرے دے زمونیر پہ سردار

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَالْغُلَامِينَ

ابراہیم باندے او پہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندے پہ عالمونو کنیے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىٰ

بیشک تہ ڈیر ستائیلے شوے د بندگی والائے اورحمت اولیرے اے اللہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ

خو پور سے چہ یادوی ہفہ لره یادونکی او غفلت کوی ذکر

ذِكْرِهِ الْغَفْلُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دھفہ نہ غفلت کونکی۔ اے اللہ رحمت او لیجے بہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

وَأَرْحَمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَأَوْلَ سَيِّدِنَا

اورحم او کرے بہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

محمد باندے او برکت او لیجے بہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحَّمْتَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تادرودلیگلے دے اورحمت

وَبَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

د لیکلے دے اوبرکت دلیگلے دے پہ سردار زمونیر ابراهیم باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

آل د سردار زمونیر ابراهیم باندے بیشکہ تہ ذیر ستائیلے شومے نے د بزرگی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

والاے اے اللہ رحمت او لیجے بہ سردار زمونیر محمد باندے چہ نبی دے

الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ الْمَطْهَرِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

آمی دے، پاک دے، پاک کرے شومے دے او پہ آل دھفوی او سلام او لیجے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَهَ

اے اللہ رحمت او لیجے بہ ہفہ چاچہ تا ختم کرے دے بہ ہفہ باندے رسالت

وَأَيَّدْتَهُ بِالنُّصْرِ وَالْكَوْثَرِ وَالشَّفَاعَةِ

او دھفہ تائید دکرے دے بہ امداد سرہ او پہ کوثر او شفاعت سرہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار محمد باندے

بِنَبِيِّ الْحُكْمِ وَالْحِكْمَةِ السَّرَاجِ الْوَهَّاجِ

چہ نبی دے دُحکم او حکمت روینانہ چراغ دے

الْمَخْصُوصِ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ وَخْتَمِ

خاص کرے شوے دے بہ عظیم خونی سرہ او ختمونکے

الرُّسُلِ ذِي الْمِعْرَاجِ وَعَلَى إِلِهِ وَ

درسولانو خاوند د معراج او پہ آل دھغوی او پہ

أَصْحَابِهِ وَاتِّبَاعِهِ السَّالِكِينَ عَلَى

اصحابو دھغوی او پہ پیروی کونکو دھغوی کوم چہ تلونکی دی پہ

مَنْهَجِهِ الْقَوِيمِ ۝ فَأَعْظِمِ اللَّهُمَّ بِهِ

لارہ رویشانہ نیغہ بانڈے . پس عظیمہ کرے اے اللہ پہ ہغوی سرہ

مِنْهَاجِ نُجُومِ الْإِسْلَامِ وَمَصَابِيحِ

دا سلام رویشانہ ستورو لارہ او دیوے

الظَّلَامِ الْمُهْتَدَى بِهَمْرِ فِي ظُلْمَةِ لَيْلِ

ڈتیارو چہ ہدایت موندے شی پہ ہغوی سرہ پہ تیارے دشیے

الشُّكِّ الدَّائِجِ صَلَاةٍ دَائِمَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ

ڈشک تورے کنے . داسے رحمت اولیہے چہ ہمیشہ جاری او سی

مَا تَلَا طَمَّتْ فِي الْأَجْحَرِ الْأَمْوَاجِ وَطَا

لوغو پورے چہ چپے وہی پہ دریاہونو کنے موجونہ او طواف کوی

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

دخانہ کعمے نہ دھرے لارے لارے نہ

الْحَجَّاجِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلِيمِ عَلَى

حج کونکی او غورہ درود او سلام دوی پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَصَفْوَتِهِ

سردارز مونیر محمد بانڈے چہ عزتمنبرسول دھغے دے او برگزیدہ دھغے دے

مِنَ الْعِبَادِ وَشَفِيعِ الْخَلَائِقِ فِي الْمَبْعَادِ

د بند یگانونہ او شفاعت کونکے د مخلوقات تودے دقیامت پہ ورخ

صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَالْحَوْضِ

صاحب د مقام محمود دے او دحوض دے چرتہ بہ چہ

الْمُرُودِ النَّاهِضِ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ

خلق راخی کوزیری بہ او چتونکے د عباگانو درسات

والتبلیغ الأعم والأخصوص بشرف

او د تبلیغ د احکامو عامو او خاصو، په شرف

السعیة فی صلاح الأعظم ۰ صلی

د کوشش کولو په ډیره لویه ښیکړه کتنه، درود ډاو لیری

الله علیه وعلى إله صلوة دایمة

الله تعالیٰ په هغوی باندې او په آل دهغوی داسه درود چه همیشه

مستمرة الدوام على مراللیال والایام

جاری وي، همیشه په جاری او سیدلو د شپو او دورخو کتنه

فهو سید الأولین والأخرین و

پس هغه سردار د او لنو او روستنو دس او

أفضل الأولین والأخرین ۰ علیه

ډیر غوره دس په رومینو او روستنو کتنه، په هغوی ډوی

أفضل صلوة المصلین ۰ وأزکی

غوره درود د درود وډیونکو، او پاکیزه

سلام المسلمین ۰ وأطيب ذکر

سلام د اسلام لیکونکو، او ډیر پاکیزه ذکر

الذکرین ۰ وأفضل صلوات الله

د ذکر کونکو او ډیر غوره درودونه دالله

وأحسن صلوات الله ۰ وأجل صلوات

او ډیر ښکلي درودونه دالله، او ډیر او چت درودونه

الله ۰ وأجمل صلوات الله ۰ و

دالله، او ډیر ښائسته درودونه د الله او

أكمل صلوات الله ۰ وأسبغ صلوات

ډیر کامل درودونه د الله او ډیر پوره درودونه

الله ۰ وأتم صلوات الله ۰ وأظهر

د الله او ډیر پوره درودونه د الله او ډیر روښانه

صلوات الله ۰ وأعظم صلوات الله

درودونه د الله او ډیر لوڼه درودونه د الله

وَأَذْكُرُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَطْيَبُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

او دیر روشانه درودونه د الله. او دیر پاکیزه درودونه

اللَّهُ وَأَبْرِكُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَزْكُ

د الله، او دیر برکت والا درودونه د الله او دیر پاکیزه

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَنْتَعِي صَلَوَاتِ اللَّهِ

درودونه د الله او دیر زیاتیدونکی درودونه د الله

وَأَوْفِي صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَسْتَعِي صَلَوَاتِ اللَّهِ

او دیر پوره درودونه د الله او دیر او چت درودونه

اللَّهُ وَأَعْلَى صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَكْثَرُ

د الله او دیر زیات او چت درودونه د الله او دیر

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَجْمَعُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

درودونه د الله او دیر جامع درودونه د الله

وَأَعْمُرُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَدْوَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

او دیر عام شوی درودونه د الله او همیشه پاتے کیدونکی درودونه

اللَّهُ وَأَبْقِي صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَعَزُّ

د الله او باقی پاتے کیدونکی درودونه د الله او دیر عزتمند

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَرْفَعُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

درودونه د الله او دیر او چت درودونه د الله

وَأَعْظِمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَى أَفْضَلِ خَلْقِ اللَّهِ

او دیر لوئے درودونه د الله، په دیر غوره مخلوق

اللَّهُ وَأَحْسِنُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَجَلُّ

د الله او په دیر خائسته مخلوق د الله. او په دیر او چت

خَلْقِ اللَّهِ وَأَكْرَمُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَجْمَلُ

مخلوق د الله او په دیر عزتمند مخلوق د الله او په دیر خائسته

خَلْقِ اللَّهِ وَأَكْمَلُ خَلْقِ اللَّهِ

مخلوق د الله او په دیر کامل مخلوق د الله

وَأَتَوَخَّخُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَعْظَمُ خَلْقِ اللَّهِ

او په دیر پوره مخلوق د الله او په دیر لوئے مخلوق د الله

عِنْدَ اللَّهِ ○ رَسُولِ اللَّهِ ○ وَنَبِيِّ اللَّهِ

به نزد د الله - رسول د الله او نبي د الله

وَحَبِيبِ اللَّهِ ○ وَصَفِيِّ اللَّهِ ○ وَرَجِيِّ اللَّهِ

او حبيب د الله او غوره كړې شوم د الله او هم كلام د الله

وَخَلِيلِ اللَّهِ ○ وَوَلِيِّ اللَّهِ ○ وَآمِينِ اللَّهِ

او دوست د الله او ولي د الله او امين د الله

وَخَيْرَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ○ وَنُحْبَةِ

او غوره كړې شوم د الله د مخلوق د الله نه او منتخب شوم

اللَّهِ مِنْ بَرِيئَةِ اللَّهِ ○ وَصَفْوَةِ اللَّهِ

د الله د مخلوق د الله نه او برکزيده د الله

مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ ○ وَعُرْوَةِ اللَّهِ ○ وَ

د الله په پيغمبرانو كې او رسي د الله او

عِصْمَةِ اللَّهِ ○ وَنِعْمَةِ اللَّهِ ○ وَمِفْتَاحِ

عصمت د الله او نعمت د الله او كنجي

رَحْمَةِ اللَّهِ ○ الْمُخْتَارِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

رحمت د الله، غوره كړې شوم درسلانو د الله نه

الْمُنْتَخِبِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لِقَائِهِ بِالْمَطْلَبِ

منتخب كړې شوم د الله د مخلوق نه رسيدونكې دې مطلب ته

فِي الْمَرْهَبِ وَالْمَرْغَبِ الْمَخْلَصِ فِي

په ويږه كېښې او په اميد كېښې، خالص كړې شوم دې په هغه څه كېښې

مَا وَهَبَ ○ أَكْرَمِ مَبْعُوثِ أَصْدَقِ

چه ور كړې شوي دي، ډير عزتمند ليكلې شوم، ډير رشتياويونكې

قَائِلِ ○ أَنْجِحِ شَافِعِ ○ أَفْضَلِ مُشْفَعِ

ډير كامياب شفاعت كونكې ډير غوره شفاعت قبول شوم امانتدار دې

الْآمِينَ فِي مَا اسْتُودِعَ الصَّادِقِ فِي مَا

په هغه څه كېښې چه ورسره امانت شوي دي رشتنې په هغه څه كېښې

بَلَّغَ الصَّادِعِ بِأَمْرِ رَبِّهِ الْمُضْطَّرِّ بِمَا

چه رسولې ئې دي، ظاهر دمكې دحكم درب خپل ثابت قدمې په هغه څه

مَحَلَّ ۞ اقْرَبِ رُسُلِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَوَسِيلَةَ

چه ورته بارشوي دي نزديك تر دالله به رسول نوا كننه الله ته په وسيله كننه

وَاعْظِمِهِمْ غَدًّا عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً ۞ وَ

اوزيات او چت به وي صباله قيامت كننه دالله په نزديك مرتبه كننه او

فَضِيلَةً ۞ وَاكْرَمِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ الْكِرَامِ

په فضيلت كننه او ډير عزتمند د الله تعالي په انبياء كرامو كننه

الصَّفْوَةَ عَلَى اللَّهِ ۞ وَأَحْبِبَّهُمْ إِلَى اللَّهِ

غوره شوه د الله په نزد او زيات خوښ الله تعالي ته

وَاقْرَبِهِمْ رُفْعًا لَدَى اللَّهِ ۞ وَاكْرَمِ

اوزيات نزدك د الله په نزد او زيات عزتمند په مخلوق كننه الله ته

الْمَخْلُوقِ عَلَى اللَّهِ ۞ وَأَحْظَاهُمْ وَأَرْضَاهُمْ

اوزيات نزدك په هغوى كننه اوزيات راضي اوسيدونك په هغوى كننه

لَدَى اللَّهِ ۞ وَأَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا ۞

د الله په نزد اوزيات او چت په خلقو كننه په مرتبه كښي او ډير لوړ په هغوى

وَاعْظِمِهِمْ مَحَلًّا ۞ وَاكْبِرْهُمْ مَحَاسِنًا

كننه په مرتبه كننه او ډير كامل په هغوى كننه په نيكو او فضيلت كننه

وَفَضْلًا ۞ وَأَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةً ۞ وَ

او غوره په نبیانو كننه په درجه كننه اوزيات كامل دهغوى نه په شريعت

اَكْبِرْهُمْ شَرِيعَةً ۞ وَأَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

كننه اوزيات شرافت والا په نبیانو كننه په اصل كننه اوزيات روښانه په

نَصَابًا ۞ وَأَبِيهِمْ بَيَانًا ۞ وَخَطَابًا ۞ وَأَفْضَلِهِمْ

هغوى كننه په بيان او خطاب كننه او ډير غوره په خلقو كننه ديبداش

مَوْلِدًا ۞ وَأُمَّهَجْرًا ۞ وَعَتْرَةً ۞ وَأَصْحَابًا ۞ وَاكْرَمِ

خانسه كننه او دهجرت خانسه كننه او په اولاد او اصحابو كننه اوزيات

النَّاسِ أَرْوَمَةً ۞ وَأَشْرَفِهِمْ جُرْتُومَةً ۞

عزتمند په خلقو كننه په اصل كننه اوزيات شرافت والا په جماعت كننه

وَأَخْيَرِهِمْ تَفْسًا ۞ وَأَطْهَرِهِمْ قَلْبًا ۞ وَأَصْدَقَهُمْ

اوبهترين په هغوى كننه په اعتبار د خان سره اوزيات صفات زړه والا اوزيات

قَوْلًا وَآزَكُهُمْ فِعْلًا وَآثَبْتَهُمْ أَصْلًا وَ

رشتہ سے ہے ہجویٰ کہنے سے قبول کہنے اور پیکر پاک سے ہجویٰ کہنے سے فعل کہنے اور زیات پوخ سے ہجویٰ کہنے

أَوْفَاهُمْ عَهْدًا أَوْ أَمَكْنَهُمْ مَجْدًا وَأَكْرَمَهُمْ

سے اصل کہنے اور زیات پورہ کونکے سے ہجویٰ کہنے سے لوظ کہنے اور زیات پوخ سے ہجویٰ کہنے سے بزرگی کہنے

طَبْعًا وَأَحْسَنَهُمْ صُنْعًا وَأَطْيَبَهُمْ فِرْعًا وَ

اور زیات عزت مند سے ہجویٰ کہنے سے طبیعت کہنے اور زیات بنہ سے ہجویٰ کہنے سے نیکی کہنے اور زیات پاکیزہ سے

أَكْثَرَهُمْ طَاعَةً وَسَمْعًا وَأَعْلَاهُمْ مَقَامًا

سے ہجویٰ کہنے سے اولاد کہنے اور زیات سے ہجویٰ کہنے سے بدنگی کہنے اور ہدیٰ کہنے اور زیات سے ہجویٰ کہنے

وَأَحْلَاهُمْ كَلَامًا وَأَزَكَّهُمْ سَلَامًا وَأَجَلَّهُمْ

کہنے سے مقام کہنے اور زیات خود سے ہجویٰ کہنے سے خبر و کہنے اور زیات پاکیزہ ہجویٰ کہنے سے سلام کہنے اور زیات

قَدْرًا وَأَعْظَمَهُمْ فَخْرًا وَأَسْنَمَهُمْ فَخْرًا

لوچت سے ہجویٰ کہنے سے فخر کہنے اور زیات لوچت سے ہجویٰ کہنے سے فخر کہنے اور زیات روئے سے ہجویٰ کہنے سے

وَأَرْفَعَهُمْ فِي لِسَانِ الْأَعْلَىٰ ذِكْرًا وَأَصْدَقَهُمْ

لہجہ کہنے اور زیات لوچت سے ہجویٰ کہنے سے طرفہ سوسہ ولسہ کہنے سے ذکر کہنے اور زیات رشتہ سے ہجویٰ کہنے

وَعْدًا وَأَكْثَرَهُمْ شُكْرًا وَأَعْلَاهُمْ أَمْرًا

سے وعدہ کہنے اور زیات سے ہجویٰ کہنے سے شکر گزاری کہنے اور زیات اوچت سے ہجویٰ

وَأَجْمَلَهُمْ صَبْرًا وَأَحْسَنَهُمْ خَيْرًا وَ

کہنے سے فرمان کہنے اور زیات بنکلے سے ہجویٰ کہنے سے صبر کہنے اور زیات بنہ سے ہجویٰ

وَأَقْرَبَهُمْ يُسْرًا وَأَبْعَدَهُمْ مَكَانًا وَ

کہنے سے نیکی کہنے اور زیات نزد سے ہجویٰ کہنے سے آسانی کہنے اور زیات اوچت سے

أَعْظَمَهُمْ شَأْنًا وَآثَبْتَهُمْ بُرْهَانًا وَ

ہجویٰ کہنے سے مکان کہنے اور زیات لورے سے ہجویٰ کہنے سے شان کہنے اور زیات مضبوط سے

أَرْجَحَهُمْ مِيزَانًا وَأَوْلَهُمْ إِيْمَانًا وَ

ہجویٰ نہ سے دلیل کہنے اور زیات دروند سے ہجویٰ نہ سے میزان کہنے اور اول سے ہجویٰ نہ

أَوْضَحَهُمْ بَيَانًا وَأَفْصَحَهُمْ لِسَانًا وَ

سے ایمان کہنے اور زیات واضح سے ہجویٰ نہ سے بیان کہنے اور زیات فصیح سے ہجویٰ نہ

أَظْهَرَهُمْ سُلْطَانًا

ژبہ کہنے اور زیات ظاہر سے ہجویٰ نہ سے دلیل دراصلت کہنے

الْحَزْبُ الرَّابِعُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ
خلورم حزب د زیارت دورخ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
ای اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے چه ستا بندہ دے

وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا
او ستا رسول دے نبی اُمی دے او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
محمد باندے ای اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً
محمد باندے او زمونیر د سردار محمد په آل باندے داسے رحمت

تَكُونُ لَكَ رِضَىٰ وَلَهُ جَزَاءٌ وَ لِحَقِّهِ
چه ترے درضاسبب شی او هغوی دپاره جزاشی او دهغوی د حق دپاره

أَدَاءٌ وَأَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَ
ادا والے شی او ورکے ورله وسیله او فضیلت او

الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْرَهُ
هغه مقام محمود ذکوم چه تا وعده کرے ده هغه سره او جز اورله ورکے

عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَجْرَهُ أَفْضَلُ مَا
زمونیر د طرفه ذکومے چه هغه لائق وی او بدله ورله ورکے غوره دهغه نه


جَازَيْتَ نَبِيًّا عَن قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَن
چه تا بدله ورکے ده یونبی ته دخپل قومنه او یورسول ته دخپل

أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنْ
امت د طرفنه او رحمت او لبرے په ټولو رونرو دهغوی د پیغمبرانو

النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ
نه او ذنیک بختانونه ای زیات رحم کونکیه په ټولو رحم کونکو کنجے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَواتِكَ وَ
ای اللہ او کرخوئے غوره رحمتونه خپل

شَرَائِفَ زَكَواتِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ
او چت خیرونه او خوبیانے خپلے او زیاتیدونکی برکتونه خپل



وَعَوَاطِفَ رَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَحَبُّبِكَ
او مہربانیاں ذ بخشش خہل او رحمت خہل او سلام خہل

وَفَضَائِلَ الْأَيْكِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
او غورہ نعمتوںہ خہل زمونیر بہ سردار محمد بانده

سَيِّدِنَا لِمُرْسَلِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
چہ سردار د رسولانو دہ او رسول درب العلمین دہ

قَائِدِ الْخَيْرِ وَفَاتِحِ الْبُرُوجِ رَبِّي الرَّحْمَةِ
قائد دخیر دہ او کولاوونکے دنیکے دہ او نبی درحمت دہ

وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ ○ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا
اوسردار دامت دہ۔ اے اللہ وے لیہے مقام محمود تہ چہ نزدہ

مَحْمُودًا تَرْزُقْ بِه قُرْبَهُ وَتَقْرُبْهُ عَيْنَهُ
کرے تہ دھغہ بہ سبب قرب دھغوی او چہ یخے کرے دھغہ بہ سبب سترکے

يَغِيْظُهُ بِه الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ○
دھغوی چہ پستخیری ورتہ دھغہ بہ سبب اولی خلق ہم او روستونی ہم

اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةَ
اے اللہ ورکرے ورلہ بہتر والے او فضیلت

وَالشَّرَفَ وَالْوَسِيلَةَ وَالدرَجَةَ الرَّفِيعَةَ
او شرف او وسیلہ او او چتہ درجہ

وَالْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ ○ اللَّهُمَّ أَعْطِ
او او چتہ مرتبہ۔ اے اللہ ورکرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَبَلِّغْهُ
زمونیر سردار محمد تہ وسیلہ او وے زسومے

مَا مَوْلَاهُ وَاجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ
خہل امید تہ او وے کرخومے رومے شفاعت کونکے او رومے

مُشْفِعٍ ○ اللَّهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ وَ
شفاعت قبول کرے شومے۔ اے اللہ او چت کرے دلیل دھغوی او

تَقِلْ مِيزَانَهُ وَأَبْدِجْ حُجَّتَهُ وَارْفَعْ
دروند کرے میزان دھغوی اوروشانہ کرے حجت دھغوی او او چت کرے

فِي أَهْلِ عَلِيٍّ دَرَجَتَهُ ۝ وَفِي
په عليين والو کننے درجه دهغوی او په

أَعْلَى الْمُقَرَّبِينَ مَنْزِلَتَهُ ۝ اللَّهُمَّ
او چتو مقربينو کننے مرتبه دهغوی . اے الله

أَحْيِنَا عَلَى سُنَّتِهِ ۝ وَتَوْفِقْنَا عَلَى مِلَّتِهِ ۝
مونيزوندي اولرے په طريقه دهغوی او مونيزه مرگ راولر په ملت دهغوی

وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَاحْشُرْنَا
او اوگرخوے مونير اهل دشفاعت دهغوی . او مونيزه راهاسوے

فِي زُمْرَتِهِ وَأَوْرِثْنَا حَوْضَهُ ۝ وَاسْقِنَا
دهغوی په زمرة کننے او مونيزه وروغر دهغوی حوض ته . او په مونيزه او

مِنْ كَأْسِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَ
خکوم دهغوی دجام نه چه نه مونيزه رسواشوي يواونه شرمنده يو او

لَا شَاكِيْنَ وَلَا مُبَدِّلِيْنَ وَلَا مُغَيِّرِيْنَ
نه شک کونکي يو اونه بدلونکي يو اونه تغير راوستونکي يو

وَلَا فَاتِنِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ أَمِينَ يَا
او نه گمراه کونکي يو اونه گمراه کيلونکي يو . قبوله کرے اے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رب العالمينه . اے الله رحمت او لبرے زمونيزه په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
سردار محمد بانده او زمونيزه سردار محمد په آل بانده

وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفُضَيْلَةَ وَالذَّجَجَةَ
او ور کرے ورته وسيله او فضيلت او درجه

الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ
او چتو او بونے خے هغه مقام محمود ته چه ته

الَّذِي وَعَدْتَهُ مَعَ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ ۝
نه ورسره وعده کرے ده سره ذبيغمبر انورونرو دهغوی سره رحمت

صَلِّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِبَيِّ الرَّحْمَةِ
داو کري الله تعالی زمونيزه سردار محمد بانده چه درحمت نبي دے

وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ وَعَلَىٰ آيِنَا سَيِّدِنَا

او سردار امت دے، او زمونیر پہ پلار حضرت آدم بانده

أَدَمَ وَأَمَّنَّا سَيِّدَتَنَا خَوَاءَ وَمَنْ وَّلَدَا

اوزمونیر پہ موربی بی حوابانده او خوک چه هغوی نه پیدا شوی دی

مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

د پیغمبرانو نه او صدیقانوه او شهیدانوه

وَالصَّالِحِينَ وَصَلِّ عَلَىٰ مَلِكِكَ

او صالحانوه او رحمت او لیرے پہ خپلو ملاکو ټولوبانده

أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ

په اسمانونو کنه اوسیدونکے او په زمکوبے او سیدونکے او په

وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ○

مونیر بانده هم د هغوی سره اے لورے رحم کونکيه په ټولورحم کونکو کنه

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَرِوَالِدِي

اے الله او بخنیه ماته گناهونه خما او خما مور پلارته

وَأَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَ

اورحم او کرے په هغوی بانده خنکه چه هغوی زه پاللی یم په ورو

لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

کوالي کنه او ټول مومنان سړي او مومنانې بنخه

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ

اومسلمانان سړي اومسلمانانې بنخه کوم چه ژوندي دي په هغوی کنه او کوم

مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَتَبَاعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ

چه مړه دي اوتابع کرے په مینخ زمونیره او په مینخ د هغوی کنه

بِالْخَيْرِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ

په بنه کرووسره اے رب بخنیه او کرے ماته اورحم رابلله او کرے لوته ښه پوره

خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ○ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

رحم کونکو کنه نه اونیشته دے گناهونو نه بچ کیدل اونه قوت دنیکې کولو

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○

مگر په توفیق دالله سره چه ډیر او جت او ډیر لورے دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ
 اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے چہ نور دے
 الْأَنْوَارِ وَسِرِّ الْأَسْرَارِ وَسَيِّدِ
 پہ انوارو کنے او راز دے پہ رازونو کنے او سردار دے
 الْأَبْرَارِ وَزَيْنِ الْمُرْسَلِينَ الْاٰخِيَارِ
 دنیکانو او زینت دے دمرسلانو نیکانو
 وَآكْرَمِ مَنْ اَظْلَمَ عَلَيْهِ الْيَلُّ وَ
 اوزیات عزتمند دے پہ ہفہ چاکنے چہ تیارہ کرے دہ ورباندے شہہ او
 اَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ عَدَدَ مَا نَزَلَ
 رنہا کرے دہ ورباندے ورخ' پہ شمار دھے چہ راکوز شوی دی
 مِنْ اَوَّلِ الدُّنْيَا اِلَى اٰخِرِهَا مِنْ قَطْرِ
 د دنیا دشروع نہ تر آخرہ پورے دغاخکو
 الْاَمْطَارِ وَعَدَدَ مَا نَبَتَتْ مِنْ اَوَّلِ
 دبارانونونہ او پہ شمار دھفہ چہ توکیدلی دی دشروع

الدُّنْيَا اِلَى اٰخِرِهَا مِنَ النَّبَاتِ وَالْاَشْجَارِ
 ددنیا نہ تر آخرہ پورے ذ بوتونہ او ذاو نونہ داسے رحمت
 صَلَوةٍ دَائِمَةٍ يَدَاوِمُ مَلِكِ اللَّهِ الْوٰحِدِ
 چہ ہمیشہ وی ہمیشہ والی دملک داللہ چہ یودی اوزبردست
 الْقَهَّارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 دے اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے داسے رحمت
 صَلَوةٍ تُكْرَمُ بِهَا مَثْوَاهُ وَتُشْرِفُ بِهَا
 چہ عزتمند کرے پہ ہفے سرہ تہکانہ دھغوی او عزتمند کرے پہ ہفے سرہ
 عَقْبَهُ وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَاهُ وَ
 آخرت دھغوی اووے رسوے پہ دے سرہ پہ ورخ دقیامت مرادخبل تہ او
 رِضَاهُ ۝ هَذِهِ الصَّلَاةُ تَعْظِيْمًا لِحَقِّكَ
 رضامندی خیلے تہ. دادرود تعظیم دے دبارہ دحق ستاسو
 يَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا ۝ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ
 اے زمونیر سردار محمدہ . درے خل د اووانی. اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءِ الرَّحْمَةِ

رحمت اولين زمونيره سردار محمدبانده چه دهغوي دنوم مبارک رحمت

وَمِيعَى الْمَلِكِ وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ

ده او دوازه ميمونه نه ملک ددنيا او آخرت ده او دال دلالت کوي په

الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ عَدَدِ مَا فِي

دوام درحمت سردار کامل ده دخيردوازه کولانکي ده خاتم د پيغمبرانو

عَلَيْكَ كَايْنٌ اَوْ قَدْ كَانَ كَلِمًا ذَكَرَكَ

ده په شمار دهغه چه ستا په علم کنه کيلونکي دي ياشوي دي چه کوم وقت

وَذِكْرَةَ الذِّكْرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ

يادوي تالره او يادوي هغوي لره يادونکي او کوم وخت چه غافل شي

ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَفْلُونَ ۝ صَلَوَةٌ

ستادد کر نه او دهغوي دذکر نه غفلت کونکي داسه رحمت او ليريه

دَائِمَةٌ يَدَاؤِ امِكَ بَاقِيَةٌ بِبَقَائِكَ

چه هميشه اوسي سره دهميشه والي ستا باقي اوسي سره دباقي والي ستا

لَا مُنْتَهَى لِهَادُونَ عَلَيْكَ إِنَّكَ

چه نه وي انتها دپاره دهغه سواد علم ستانه بيشکه ته

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ثَلَاثًا ۝ اَللَّهُمَّ

په هر شيز بانده قدرت لرونکي نه دره خل داوواني اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

رحمت او ليريه زمونير په سردار محمد بانده نبي

الرُّمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

امي ده او زمونير د سردار محمد په آل بانده خوک چه

هُوَ أَبِي هُوَ أَبِي شَمُوسِ الْهُدَى تَوْرًا وَ

زيات زيبا دي دهدايت دنمونونه په رنرا کنه اوزيات غالب

أَبْهَرُهَا ۝ وَأَسِيرُ الْأَنْبِيَاءِ فَخْرًا وَ

دي په هغوي اولونيه سير کونکي په انبياو کنه په فخر کنه اوزيات

أَشْهَرُهَا ۝ وَتُورَةَ أَزْهَرِ أَنْوَارِ الْأَنْبِيَاءِ

مشاوره هغوي کنه اونور دهغوي زيات خليدونکي ده دانوارو دانبياو نه

وَأَشْرَفُهَا وَأَوْضَحُهَا وَأَزْكَىٰ خَلْقِيَّةٍ

اوزیات روینانہ دے اوزیات واضعہ دے او دیر پاک بہ مخلوق کنیے

أَخْلَاقًا وَأَظْهَرُهَا وَأَكْرَمُهَا خَلْقًا وَ

بہ اخلاقوسرہ او دیرہ پاکیزہ او دیر عزتمند بہ اعتبار د پیدائش سرہ

أَعْدَلُهَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او دیر درست بہ ہغوی کنیے اے اللہ رحمت اولیے زمونیر بہ سردار

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

محمد باندمی چہ نبی امی دے او بہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَبْهَىٰ مِنَ الْقَمَرِ

محمد باندمی شوک چہ زیات بے مخے دے دسپور می پورہ شوے نہ

التَّائِبِ وَأَكْرَمُ مِنَ السَّحَابِ الْمُرْسَلَةِ

او زیات سخی دے د وریخے لیکلے شوے نہ

وَالْبَحْرِ الْخَطْمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او دغٹ دریاب نہ اے اللہ رحمت او لیے زمونیر بہ سردار

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

محمد باندمی چہ نبی امی دے او بہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرِنَتْ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ

محمد باندمی ہفہ ہستی چہ ترے شوے دے برکت دہغوی ذذات سرہ

وَمُحِبَّاهُ وَتَعَطَّرَتْ الْعَوَالِمُ بِطِيبِ

او دہغوی مخ مبارک سرہ او خوشبو یہ شول عالمونہ بہ خوشبوئی

ذِكْرِهِ وَرِيَّاهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د ذکر دہغوی سرہ او دہغوی بہ خوشبوئی سرہ اے اللہ رحمت اولیے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ۝

زمونیر بہ سردار محمد باندمی او دہغوی بہ آل باندمی او سلام او لیے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اے اللہ رحمت او لیے زمونیر بہ سردار محمد باندمی او بہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل د سردار زمونیر محمد باندمی او برکت او لیے زمونیر بہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد باندے او په آل د سردار زمونږ محمد باندے

وَأَرْحَمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَلِ سَيِّدِنَا

اورحم او کره زمونږ په سردار محمد باندے او په آل د سردار زمونږ محمد باندے

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ

څنگه چه تارحمت لیرے دے او برکت دلځکله دے اورحم ذکر دے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

زمونږ په سردار ابراهیم باندے او په آل د سردار زمونږ ابراهیم باندے

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

بیشکه ته ډیر ستایلے شوم دلونے بزځمې خاوندے. اے الله

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

رحمت اولیرے زمونږ په سردار محمد باندے چه ستابنده دے

وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ

او ستا نبی دے او ستا رسول دے چه نبی اُمی دے او په

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل د سردار زمونږ محمد باندے. اے الله رحمت اولیرے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

زمونږ په سردار محمد باندے او په آل د سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ مِلَّةَ الدُّنْيَا وَمِلَّةَ الْآخِرَةِ ۝

محمد باندے په د کوالي د دنیا او په د کوالي د آخرت

وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

او برکت او لیرے زمونږ په سردار محمد باندے او په آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّةَ الدُّنْيَا وَمِلَّةَ

د سردار زمونږ محمد باندے په د کوالید دنیا او په د کوالي

الْآخِرَةِ ۝ وَأَرْحَمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

د آخرت. او رحم او کره زمونږ په سردار محمد باندے

وَأَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّةَ الدُّنْيَا وَ

او زمونږ د سردار محمد په آل باندے په د کوالي د دنیا او

مِلْءِ الْآخِرَةِ ۝ وَاجْزِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

پہ ذکوالی د آخرت . او جز او کہے زمونیر سردار محمد کہ

وَأَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ

او زمونیر د سردار محمد آل له پہ ذکوالی د دنیا او پہ ذکوالی

الْآخِرَةِ ۝ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د آخرت او سلام او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ الدُّنْيَا وَ

او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے پہ ذکوالی د دنیا او

مِلْءِ الْآخِرَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ ذکوالی د آخرت . اے اللہ درود او لیبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝

محمد باندے خنکہ چہ تاحکم کہے دے مونیرتہ درود لیکلو پہ ہفہ باندے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي ۝

او درود او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے خنکہ چہ بناہیرو

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ

درود لیکلو پہ ہفوی باندے . اے اللہ رحمت او لیبرے پہ خیل نبی

الْمُصْطَفَىٰ وَرَسُولِكَ الْمُرْتَضَىٰ وَوَلِيِّكَ

غورہ کہے شوی باندے او پہ خیل برگزیدہ رسول باندے او پہ خیل دوست

الْمُجْتَبَىٰ وَآمِينَكَ عَلَىٰ وَحْيِ السَّمَاءِ ۝

غورہ کہے شوی باندے او چہ سنا امین دے د آسمان پہ وحی باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِّمِ

اے اللہ رحمت او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے چہ ڈیر عزتمند دے

الْأَسْلَافِ الْفَاضِلِينَ بِالْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ

پہ مخکنوکنے قائم دے یہ عدل او اسلام باندے

الْمَنْعُوتِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ الْمُنْتَخِبِ

صفت کہے شوی دے پہ سورت اعراف کنے انتخاب کہے شوی دے

مِنْ أَصْلَابِ الشَّرَافِ وَالْبَطُونِ

د شاکانو د اشرافو او کلبو

الْخِطَافِ الْمُصَفِّ مِنْ مُصَاحِرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

صفاؤ پاکیزه و نه خلاصه د خاندان د عبدالمطلب

ابن عَبْدِ مَنَافٍ الَّذِي هَدَيْتَ بِهِ

بن مناف نه هغه هستي چه تا لاره او بنودله دهغه په ذریعه

مِنَ الْخِطَافِ وَبَيَّنْتَ بِهِ سَبِيلَ

دخلاف نه او بیانہ کره تا دهغه په ذریعه لاره

الْعَقَافِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَفْضَلِ

د پاکتي. اے الله زه غواړم تانه په وسیله د افضل ترین

مَسْأَلَتِكَ وَبِأَحَبِّ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَ

سوال چه تانه کولې شي او په وسیله د محبوب نومونو تانه اوزیات

أَكْرَمِهَا عَلَيْكَ وَبِمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا

عزتمند دهغه تانه اوسره دهغه احسان نه چه تا په مونږ باندې کرې دے

بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

په رالیکلو د سردار زموږ محمد کوم چه زموږ په نبی دے صلی الله علیه

وَسَلَّمَ فَاسْتَنْقَذَ تَنَائِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ

وسلم. نو تانمونږه خلاص کرو دهغه په ذریعه د گمراهی نه او تارانه

أَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَجَعَلْتَ صَلَاتَنَا

حکم کرې دے د درود نیولو په هغوی باندې او تاگر خولې دے درود

عَلَيْهِ دَرَجَةً وَكَفَّارَةً وَلُطْفًا وَمَنًّا

مونږ په هغه باندې درجه او کفارہ او مهربانی او احسان

مِنَ أَعْطَاكَ فَادْعُوكَ تَعْظِيمًا

د خپلو ورکرونه . نوزه دُعا غواړم تانه سره د تعظیم

لَا مَرِكَ وَاتِّبَاعًا لَوَصِيَّتِكَ وَمُنْتَجِزًا


د حکم ستا اوسره د پیروي کولو د وصیت ستا اوسره د وفا کولو

لِمَوْعُودِكَ لِمَا يَجِبُ لِنَبِيِّنَا سَيِّدِنَا

دوعده ستا دپاره دهغه چه واجب دي د پاره د نبی او سردار زموږ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آدَاءِ

محمد صلی الله علیه وسلم په ادا کولو



حَقُّهُ قَبْلَنَا إِذْ آمَنَّا بِهِ وَصَدَّقْنَاَهُ وَاتَّبَعْنَا

دحق دھغوی زمونیر دطرفہ حکمہ مونیر ایمان راوہے دے پہ ہغوی بقلہ او مو نیر دھغوی تصدیق کرے دے

التَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ وَقُلْتَ وَقَوْلِكَ

او بیروی مو کرے دہ دھغہ نورچہ نازل کرے شودے ہغوی سرہ او نیلی دی تا او نیاستا

الْحَقُّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى

حقہ دہ چہ بیشکہ اللہ تعالیٰ او دھغہ فرشتے درود لیگی پہ

النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

نبی بانسے اے ایمان دارو درود او لیگی پہ ہغہ بانسے

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ وَأَمَرَتِ الْعِبَادَ بِالصَّلَاةِ

اوسلام پرے او لیگی ڈیر سلام او حکم ڈکرے دے بندگانو تہ پہ درود لیگیو

عَلَى نَبِيِّهِمْ فَرِيضَةً إِفْتَرَضْتَهَا وَأَمَرْتَهُمْ

خپل پیغمبر بانسے دا یو فرض دے چہ تافرض کرے دے او حکم ڈکرے دے بندگانو تہ

بِهَا فَانَسْتَلِكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَتَوْعِظَتِكَ

پہ دے سرہ تو سوال کوؤ تانہ سرہ دجلال ذات ستا اوسرہ د نور د عظمت ستا

وَمَا أَوْجَبْتَ عَلَى نَفْسِكَ لِلْمُحْسِنِينَ

اوسرہ دھغے چہ واجب کرے دی تا پہ خان خپل دبارہ دنیکانو

أَنْ تُصَلِّيَ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ عَلَى سَيِّدِنَا

چہ درود اولیکہ تہ او فرشتے ستا زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ بَلَدِهِ جِهَ سَيِّدِنَا وَمَلَائِكَتُكَ وَنَبِيِّكَ

محمد بانسے چہ ستا بلد دے او ستا رسول دے اوستانی دے

وَصَفِيِّكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ أَفْضَلَ

اوستاغورہ کرے شومے او خوین کرے شومے دے پہ مخلوق ستا کنسے

مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ

ہغہ غورہ درود چہ تالیگلے دے پہ یو کس بانسے د مخلوق خپل نہ

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ

بیشکہ تہ ڈیر ستانیلے شومے دلویں خاوندے اے اللہ پور تہ کرے

وَآكْرِمْ مَقَامَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ وَ

در چہ دھغہ او عزتمند کرے مقام دھغہ او دروند کرے میزان دھغہ او

أَبْلَجُ حُجَّتَهُ وَأَظْهَرَ مِلَّتَهُ وَأَجْزِلُ

او رویشانه کہے دلیل دھغہ او ظاہر کہے ملت دھغہ او زیات کہے

ثَوَابَهُ وَأَضَى نُورَهُ وَأَدَمُ كَرَامَتَهُ

ثواب دھغہ اور رویشانه کہے نور دھغہ او ہمیشہ اولیٰ کہے کرامت دھغہ

وَالْحَقُّ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلُ بَيْتِهِ

او ملاؤ کہے ورسرہ اولاد دھغہ او اہل بیت دھغہ چہ بخے شی

مَا تُقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ وَعَظْمُهُ فِي النَّبِيِّنَ

ورسرہ ستر کہے دھغہ او اوچت نے کہے بہ ہغہ پیغمبرانو کہے کرم

الَّذِينَ خَلَوْا قَبْلَهُ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

چہ تیر شوی دی مخکنے دھغہ نہ، اے اللہ او کرخوے زمونہ سردار

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا أَكْثَرَ النَّبِيِّنَ

محمد زیات پہ تولو پیغمبرانو کہنے پہ اعتبار د پیروی کونکو سرہ

تَبَعًا وَأَكْثَرَهُمْ أَرْسَاءً وَأَفْضَلَهُمْ

او پہ تولو کہنے زیات پہ اعتبار دوزیرانو سرہ او تولو کہنے غورہ

كَرَامَةً وَنُورًا ۝ وَأَعْلَهُمْ دَرَجَةً

بہ اعتبار د کرامت او نور سرہ او پہ تولو کہنے اوچت پہ اعتبار د درجے سرہ

وَأَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا ۝ اللَّهُمَّ

او ڈیرہ فراخہ ور کہے بہ جنت کہنے مرتبہ اے اللہ

اجْعَلْ فِي السَّابِقِينَ غَايِبَةً وَفِي لَمْتَخِينِ

او کرخوے پہ مخکنو کہنے غایت دھغہ او پہ منتخب شوؤ کہنے

مَنْزِلَةً ۝ وَفِي الْمُقَرَّبِينَ دَارَةً وَفِي

مقام دھغہ او پہ مقربانو کہنے کوردھغہ او پہ

الْمُصْطَفَيْنِ مَنْزِلَةً ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ

غورہ کہے شوؤ کہنے مرتبہ دھغہ، اے اللہ او کرخوے ہغہ لہ

أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ عِنْدَكَ مَنْزِلًا وَ

ڈیر عزتمند پہ عزتمند و کہنے پہ خیل نزد پہ مرتبہ کہنے

أَفْضَلَهُمْ ثَوَابًا وَأَقْرَبَهُمْ مَجْلِسًا وَ

او غورہ دھغی نہ پہ ثواب کہنے او زیات نزد دھغی نہ پہ مجلس کہنے او

اَثْبَتَهُمْ مَقَامًا وَاَصْوَبَهُمْ كَلَامًا وَاَوْزِيَاتٍ مَضْبُوطٍ دَهْفُوئِي نَهْ بِهٖ مَقَامَ كُنِيَةِ اَوْزِيَاتٍ غُورَهٗ دَهْفُوئِي نَهٗ سَتَا بِهٖ نَزْدٍ

اَوْزِيَاتٍ مَضْبُوطٍ دَهْفُوئِي نَهٗ بِهٖ مَقَامَ كُنِيَةِ اَوْزِيَاتٍ غُورَهٗ دَهْفُوئِي نَهٗ سَتَا بِهٖ نَزْدٍ

اَتَجَحَّهٖمْ مَسْئَلَةً وَاَفْضَلَهُمْ لَدَيْكَ زِيَاتٍ فَتَحْمَنِدُ دَهْفُوئِي نَهٗ بِهٖ سَوَالَ كُنِيَةِ اَوْزِيَاتٍ غُورَهٗ دَهْفُوئِي نَهٗ سَتَا بِهٖ نَزْدٍ

زِيَاتٍ فَتَحْمَنِدُ دَهْفُوئِي نَهٗ بِهٖ سَوَالَ كُنِيَةِ اَوْزِيَاتٍ غُورَهٗ دَهْفُوئِي نَهٗ سَتَا بِهٖ نَزْدٍ

نَصِيْبًا وَاَعْظَمَهُمْ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَةً بِهٖ نَصِيْبٍ كُنِيَةِ اَوْ دِيْر لُوْنِي دَهْفُوئِي نَهٗ بِهٖ هَفْهَفَةٌ كُنِيَةِ چَهٗ تَا سِرَهٗ دِي

بِهٖ نَصِيْبٍ كُنِيَةِ اَوْ دِيْر لُوْنِي دَهْفُوئِي نَهٗ بِهٖ هَفْهَفَةٌ كُنِيَةِ چَهٗ تَا سِرَهٗ دِي

وَاَنْزَلَهُ فِي عُرْفَاتِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ دَرَغَبَتٍ نَهٗ اَوْ نَاذِلٌ لِي كَرِهِي بِهٖ دَرَجُو دِ فِرْدَوْسٍ كُنِيَةِ دِ

دَرَغَبَتٍ نَهٗ اَوْ نَاذِلٌ لِي كَرِهِي بِهٖ دَرَجُو دِ فِرْدَوْسٍ كُنِيَةِ دِ

الدَّرَجَاتِ الْعُلَى الَّتِي لَا دَرَجَةَ قَوْقَهَا ۝ اَوْ چَتُو دَرَجُوْنَهٗ دِ كُوْمِي نَهٗ بِهٖ سَ چَهٗ بَلَهٗ دَرَجَهٗ نِيْشَتَهٗ

اَوْ چَتُو دَرَجُوْنَهٗ دِ كُوْمِي نَهٗ بِهٖ سَ چَهٗ بَلَهٗ دَرَجَهٗ نِيْشَتَهٗ

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا اَصْدَقَ اِي اللّٰهِ اَوْ كَرِخُوْمِي زَمُوْنِيْرِ سِرْدَارِ مُحَمَّدٍ دِيْرِي رَشِيْتِي

اِي اللّٰهِ اَوْ كَرِخُوْمِي زَمُوْنِيْرِ سِرْدَارِ مُحَمَّدٍ دِيْرِي رَشِيْتِي

قَائِلٍ وَاَنْجَحَ سَائِلٍ وَاَوَّلَ شَافِعٍ وِيُوْنِكِي اَوْ دِيْرِي فَتَحْمَنِدُ دَهْرُ سَوَالَ كُوْنِكِي نَهٗ اَوْ رُوْمِي شَفَاعَتِ كُوْنِكِي

وِيُوْنِكِي اَوْ دِيْرِي فَتَحْمَنِدُ دَهْرُ سَوَالَ كُوْنِكِي نَهٗ اَوْ رُوْمِي شَفَاعَتِ كُوْنِكِي

وَاَفْضَلَ مُشَفِّعٍ وَّشَفِّعَهُ فِيْ اُمَّتِهٖ اَوْ دِيْرِ غُورَهٗ شَفَاعَتِ قَبُوْلِ شُوْمِي اَوْ شَفَاعَتِ قَبُوْلِ كَرِهِي بِهٖ حَقِّ دَاْمَتِ دَهْفَهٗ

اَوْ دِيْرِ غُورَهٗ شَفَاعَتِ قَبُوْلِ شُوْمِي اَوْ شَفَاعَتِ قَبُوْلِ كَرِهِي بِهٖ حَقِّ دَاْمَتِ دَهْفَهٗ

بِشَفَاعَةِ يَغِيْبُطِهٖ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ كُنِيَةِ دَا سِي شَفَاعَتِ چَهٗ اَوْ پَسْخِيْرِي وَرْتَهٗ اَوْ لَنِي هَمِّ اَوْ اٰخِرِنِي هَمِّ

كُنِيَةِ دَا سِي شَفَاعَتِ چَهٗ اَوْ پَسْخِيْرِي وَرْتَهٗ اَوْ لَنِي هَمِّ اَوْ اٰخِرِنِي هَمِّ

وَإِذَا مَيِّزْتَ عِبَادَكَ بِفَضْلِ قَضَائِكَ اَوْ هَرِ كَلَهٗ چَهٗ جَدَا كَرِهِي بِنَدَا كَانِ خِيْلٍ بِهٖ فَيُصَلِّي دِ حَكْمِ خِيْلٍ سِرَهٗ

اَوْ هَرِ كَلَهٗ چَهٗ جَدَا كَرِهِي بِنَدَا كَانِ خِيْلٍ بِهٖ فَيُصَلِّي دِ حَكْمِ خِيْلٍ سِرَهٗ

فَاَجْعَلْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا اِنْفِيْ لْاَصْدَقِيْنَ لُوَاوَكْرِ خُوْمِي زَمُوْنِيْرِ سِرْدَارِ مُحَمَّدٍ بِهٖ دِيْرِي رَشِيْتَا وِيُوْنِكُو كُنِيَةِ

لُوَاوَكْرِ خُوْمِي زَمُوْنِيْرِ سِرْدَارِ مُحَمَّدٍ بِهٖ دِيْرِي رَشِيْتَا وِيُوْنِكُو كُنِيَةِ

قِيْلًا وَّفِيْ لْاَحْسَنِيْنَ عَمَلًا وَّفِيْ لْمُهْدِيِّيْنَ اَوْ بِهٖ دِيْرِي بِنَهٗ عَمَلِ كُوْنِكُو كُنِيَةِ اَوْ بِهٖ هِدَايَتِ كَرِهِي شُوُوْ كُنِيَةِ

اَوْ بِهٖ دِيْرِي بِنَهٗ عَمَلِ كُوْنِكُو كُنِيَةِ اَوْ بِهٖ هِدَايَتِ كَرِهِي شُوُوْ كُنِيَةِ

سَيِّدًا ۝ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّتَنَا بِهٖ دِيْنِ كُنِيَةِ اِي اللّٰهِ اَوْ كَرِخُوْمِي نَبِيِّ زَمُوْنِيْرِ دِيْرَهٗ مَحْكَبِي

اِي اللّٰهِ اَوْ كَرِخُوْمِي نَبِيِّ زَمُوْنِيْرِ دِيْرَهٗ مَحْكَبِي

قَرَطًا وَاَجْعَلْ حَوْضَهُ لَنَا مَوْعِدًا لَهٗ بِنْدُوْبَسْتِ كُوْنِكِي اَوْ اَوْ كَرِخُوْمِي حَوْضِ دَهْفَهٗ مُوْنِيْرِ دِيْرَهٗ خَائِي دُوْعَلِي

لَهٗ بِنْدُوْبَسْتِ كُوْنِكِي اَوْ اَوْ كَرِخُوْمِي حَوْضِ دَهْفَهٗ مُوْنِيْرِ دِيْرَهٗ خَائِي دُوْعَلِي

إِلَى الرَّشْدِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ

راستوالی طرفتہ نبی درحمت دے امام ذہرہیز نگارانو دے اورسول درب

وَسَوْءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا تَنبِي بَعْدَهُ

العالمین دے نیشته ہیخ پیغمبر ہغوی نہ پس خنگہ چہ راستولے نے

كَمَا بَلَغَ رِسَالَتَكَ وَتَصَمَّ لِعِبَادِكَ وَتَلَا

دے پیغام ستاوخیر خواہی نے کرے دہ بندگانو ستااولوستی نے دی

آيَاتِكَ وَأَقَامَ حُدُودَكَ وَوَفَّى بِعَهْدِكَ

آیتونہ ستاواقائم کری نے دی حدونہ ستا اوپورہ کرے نے دے لوظ ستا

وَأَنْفَذَ حُكْمَكَ وَأَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَنَهَى

اونافذ کرے نے دے حکم ستاوحکم نے کرے دے طاعت ستاومنع نے

عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَوَالَى وَلِيِّكَ الَّذِي

کرے دے دنافرمانی ستانہ اودوستی نے کرے دہ ستاھفہ دوست سرہ چہ

تُحِبُّ أَنْ تُوَالِيَهُ وَعَادَى عَدُوَّكَ الَّذِي

خوبنوں تہ دوستی کول ہفہ سرہ اودشمنی نے کرے دہ ستاھفہ دینمن سرہ

تُحِبُّ أَنْ تُعَادِيَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

چہ تہ خوبنوں دشمنی کول ہفہ سرہ اورحمت دینازل کری اللہ تعالیٰ زمونیر

مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِهِ

پہ سردارمحمد باندمے . اے اللہ رحمت او لیرے پہ بدن دھغوی

فِي الْأَجْسَادِ وَعَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ

پہ بدنونو کینے او پہ روح دھغوی پہ رحونو کینے

وَعَلَى مَوَاقِفِهِ فِي الْمَوَاقِفِ وَعَلَى

اوپہ خانے درودریدلو دھغوی پہ حانیونو دودریدلو کینے او پہ

مَشَاهِدِهِ فِي الْمَشَاهِدِ وَعَلَى ذِكْرِهِ

خانے دحاضریدلو دھغوی پہ خایونو دحاضریدلو کینے اوپہ ذکر دھغوی

إِذَا ذُكِرَ صَلَوةٌ مِنَّا عَلَى نَبِيِّنَا ۝

کلہ چہ ذکر کرے شی درود زمونیر دطرفنہ زمونیر پہ نبی باندمے

اللَّهُمَّ أْبْلِغْهُ مِنَ السَّلَامِ كَمَا ذُكِرَ

اے اللہ ورتہ اورسوں زمونیر دطرفنہ سلام خنگہ چہ ذکر شومے دے

السَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ

سلام او سلام دوي به نبي باندې او رحمت

اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

دالله او برکتونه دهغه. اے الله رحمت او لپږمې

عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ

په خپلو مقربو فرشتو باندې او په خپلو پيغمبرانو باندې

الْمُطَهَّرِينَ وَعَلَى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِينَ

چه پاکيزه دي او په خپلو ليکلو شوؤ رسولانو باندې

وَعَلَى حَمَلَةِ عَرْشِكَ وَعَلَى سَيِّدِنَا

او په او چتونکو دعرش ستا باندې او زمونږ په سردار

جَبْرِئِيلَ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيلَ وَسَيِّدِنَا

جبرئیل باندې او زمونږ په سردار میکائیل باندې او زمونږ په سردار

إِسْرَافِيلَ وَسَيِّدِنَا مَلِكِ الْمَوْتِ وَ

اسرافیل باندې او زمونږ په سردار ملک الموت باندې او

سَيِّدِنَا رِضْوَانَ خَازِنِ جَنَّتِكَ وَسَيِّدِنَا

زمونږ په سردار رضوان دجنت نگهبان باندې او زمونږ په سردار

مَالِكٍ وَصَلِّ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ

مالک باندې او رحمت اولپږمې په کراما کاتبین باندې

وَصَلِّ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

او رحمت اولپکې په خپلو تابعدارو ټولو باندې

مِنَ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ ۝

د آسمانونو او سیدونکو نه او دزمکو او سیدونکونه

اللَّهُمَّ رَاتِ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ أَفْضَلَ

اے الله ورکړمې دخپل نبي اهل بیتو ته ډیر غوره دهغه څه نه

مَا آتَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ

چه تا ورکړي دي یوکس ته داهل بیتو

الْمُرْسَلِينَ وَأَجْزَأَ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ

د رسولونو نه او جزا ورکړمې اصحابو د نبي خپل ته

أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ

زیاتہ غورہ دھغے نہ چہ تا جز اور کرے دہ یوکس تہ داصحابو

الْمُرْسَلِينَ ۝ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ

درسولانوںہ اے اللہ بخینہ او کرے مومنانو و سروتہ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

او مومنانو بنخوتہ او مسلمانانو سروتہ او مسلمانانو بنخوتہ

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ ۝ وَاعْفِرْ لَنَا

کوم چہ ژوندی دی دھغونہ او کوم چہ مرہ دی او بخینہ او کرے مونیترہ

وَأَخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

اوز مونیترہ ہغہ رونو تہ چہ مونیترہ مخکنے تیرشوی دی پہ ایمان سرہ

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا

او مہ ساتے زمونیترہ پہ زرونو کننے کینہ د بارہ دمومنانو

رَبَّنَا إِنَّكَ رءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ اللَّهُمَّ

اے ربہ زمونیترہ بیشکہ تہ دیر مہربان دیر رحم کونکے نے اے اللہ

صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رحمت او لیجے پہ نبی ہاشمی زمونیترہ پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ۝

اودھغوی پہ آل باندے او پہ اصحابو باندے او سلام پرے او لیجے دیر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ

اے اللہ رحمت اولیجے زمونیترہ پہ سردار محمد باندے شوک چہ بہتر دے

الْبَرِيَّةِ صَلَوةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَ

پہ مخلوق کننے داسے رحمت چہ راضی کرے تالرہ اوراضی کرے تہ ہغہ

تُرْضِيَهُمَا عَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ۝

لرہ او چہ راضی شے پہ ہغہ سرہ زمونیترہ اے دھرچانہ زیات رحم کونکے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیترہ پہ سردار محمد باندے او

عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

دھغوی پہ آل او اصحابو باندے او سلام او لیجے دیر دیر سلام

طَيْبًا مُّبْرَكًا فِيهِ جَزِيلًا جَمِيلًا دَائِمًا

چه پاک وي برکت ورکړه شوه وي په هغه کې ډير اوښکله وي

يَدَاوَامِ مُلْكِ اللَّهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

هميشه وي په هميشه والي د حکومت د الله اے الله رحمت او ليرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

زمونږ په سردار محمد باندې او دهغوئ په آل باندې په ډکوالي

الْفُضَاءِ وَعَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ

د فضا باندې او په شمار دستور د اسمان

صَلْوَةً تُوَازِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

داسې رحمت چه وزن لري د اسمانونو او د زمکې

وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ

او په شمار دهغه څه چه تا پيدا کړي دي او څه چه ته پيدا کونکې ئے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د قيامت تر ورځنې پورے اے الله رحمت او ليرے په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونږ محمد باندې او په آل د سردار زمونږ محمد باندې

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ

څنگه چه تارحمت کړې دے زمونږ په سردار ابراهيم باندې او برکت او

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ليرے زمونږ په سردار محمد باندې او زمونږ د سردار محمد په آل

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا

باندې څنگه چه تا برکت ليكلې دے زمونږ په سردار

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

ابراهيم باندې او په آل د سردار زمونږ ابراهيم باندې

فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

په عالمونو کېنې بيشکه چه ته ډير ستايلې شوه ئے د بزرگي والا ئے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

اے الله زه غواړم تانه معافي او عافيت

فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ○

به دین کنی او به دنیا کنی او به آخرت کنی

ثَلَاثًا ○ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ

در خلد اوانی. ای الله پرده و اجوی به مونیر باندی به بنی پردی

الْجَمِيْلِ ○ ثَلَاثًا ○ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ

عجله سره (در خلد اوانی) ای الله زه غوارم تانه

بِحَقِّكَ الْعَظِيْمِ وَبِحَقِّ نُورِ وَجْهِكَ

به لوی حق ستا او به حق دنور دذات

الْكَرِيْمِ وَبِحَقِّ عَرْشِكَ الْعَظِيْمِ

عزتمند ستا او به حق د عرش عظیم ستا

وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيِّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ

او به هغه چا سره چه او چته کرے نے ده کرسی ستا دعظمت ستانه

وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبِهَائِكَ

او دجلال ستانه او دجمال ستانه او دخوبی ستانه

وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ اسْمَائِكَ

او دقدرت سنا نه او دغلی ستانه او به حق دنومونو ستا

الْمَخْرُوزَةِ الْمَكْنُونَةِ الَّتِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا

کوم چه خزانه شوی اوپت دی کومو باندی چه خیردار نه دی

أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ ○ اَللّٰهُمَّ وَاسْأَلُكَ

هخ شوک دمخلوق ستانه. ای الله او سوال کوم تانه

بِالِاسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْبَيْلِ فَاطَمَ

به وسیله دهغه نوم ستا چه تاکیخودلویه شبه باندی نو تیاره شوه

وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمَوَاتِ

او به ورخ د کیخودونو رویشانه شوه او به آسمانو بلندی

فَأَسْتَقَلَّتْ ○ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ

نو قائم شول او په زمکه باندی نو حصاره شوه

وَعَلَى الْجِبَالِ فَأَرَسَتْ وَعَلَى الْبِحَارِ

او په غرونو باندی نو مضبوط شول او په دریابونو باندی

وَالْأُودِيَّةِ فَجَرَّتْ ۝ وَعَلَى الْعِيُونِ

او په خورزو باندي نو جاري شول او په چينو باندي

قَنَبَعَتْ ۝ وَعَلَى السَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ ۝

نوراؤ خوټکيدې او په ورنجو باندي نو اووريدې

وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ

اوسوال کوم تانه اے الله شتا په هغه نومونوسره کوم چه ليکلي شوي دي

فِي جَهَّةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

په تندي د سردار زمونږ اسرافيل عليه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَهَّةِ سَيِّدِنَا

او په هغه نومونوسره چه ليکلي شوي دي په تندي د سردار زمونږ

جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى لِمَلِكِيكَ

جبرئيل عليه السلام او سلام دوي په ملائکو

الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ

مقربينو باندي. او سوال کوم تانه په وسيله دهغه نومونوسره

الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَيَا أَسْمَاءَ

چه ليکلي شوي دي چا پيره دعرش نه او په هغه نومونوسره

الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَأَسْأَلُكَ

چه ليکلي شوي دي چا پيره دكرسي نه، او سوال کوم تانه

اللَّهُمَّ يَا إِسْمَاءَ الْمَكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ

اے الله دهغه نوم په وسيله سره چه ليکلي شوي دي په پاڼه

الرِّيْتُونِ ۝ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ

دريتون باندي. اوسوال کوم تانه اے الله په وسيله دهغه نومونوسره

الْعِظَامِ الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا

چه عظيم دي کوم چه تا ايخولي دي په خپل خان باندي کوم چه

عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ۝

ماته معلوم دي او کوم چه ماته نه دي معلوم.

الْحَزْبُ الْخَامِسُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
پنجم حزب دجمعہ دو رخت

وَاسْأَلْكَ اللَّهُمَّ بِأَسْمَاءِ الْعِظَامِ الَّتِي
او سوال كوم تانه اے اللہ پہ وسیلے دھغے خچلو عظیمو نومونو سره

سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ
كوم چه تا ايخي دي په خان خچل كوم چه ماته معلوم دي او

مَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَسْمَاءِ
كوم چه ماته نه دي معلوم. او سوال كوم تانه اے اللہ پہ وسیلے دھغے نومونو

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا آدَمُ عَلَيْهِ
سره چه رابللے نے په هغه سره زمونيره سردار آدم عليه السلام

السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ
او په وسیلے دھغه نومونو سره چه ته رابللے نے

بِهَا سَيِّدُنَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ
په هغه سره زمونير سردار نوح عليه السلام. او

بِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا
په وسیلے دھغے نومونو سره چه ته رابللے نے په هغه سره زمونير سردار

هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي
هود عليه السلام او په وسیلے دھغے نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○
رابللے نے ته په هغه سره زمونيره سردار ابراهيم عليه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا
او په وسیلے دھغه نومونو سره چه ته رابللے نے په هغه سره زمونير سردار

صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي
صالح عليه السلام او په وسیلے دھغے نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○
چه رابللے نے ته په هغه سره زمونيره سردار يونس عليه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا
او په وسیلے دھغے نومونو سره چه رابللے نے ته په هغه سره زمونيره سردار

أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ

ایوب علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاعِقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعا غوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار یعقوب علیه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَائِيُوسُفُ

اوپه وسیله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږ

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ

سرداریوسف علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَائِيُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعا غوښته ده تانه په هغه سره زمونږ سردار موسی علیه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَائِي

اوپه وسیله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږ

هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ

سردارهارون علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو سره

النَّبِيِّ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَائِي شُعَيْبُ عَلَيْهِ

چه دعا غوښته ده تانه په هغه سره زمونږ سردار شعيب علیه السلام

السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ

اوپه وسیله دهغه نومونو سره چه دعا غوښته ده تانه په هغه سره

بِهَا سَيِّدُ نَائِي إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

زمونږ سردار اسماعيل علیه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَائِي

اوپه وسیله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږ

دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ

سردار داؤد علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَائِي سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ

چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار سليمان علیه السلام

السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ

او په وسیله دهغه نومونو سره چه دعاغوښته ده تانه

بِهَاسِيْدُ نَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

به هغه سره زمونږه سردار زكريا عليه السلام

وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

اوپه وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه

يَجِيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي

سردار يحيى عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا اَرْمِيَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار ارمياء عليه السلام

وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

اوپه وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه

شُعْبَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي

سردار شعباء عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا الْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار الياس عليه السلام

وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا الْيَسَعَ

اوپه وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

سردار يسع عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته

بِهَاسِيْدُ نَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

ده تانه په هغه سره زمونږه سردار ذوالكفل عليه السلام. او په

وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار

يُوشَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي

يوشع عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار عيسى بن مريم عليه

السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا

السلام اوپه وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره

ذکر اللہ تعالیٰ ۲۲۶ الجزب الخامس

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 سردار زمونير محمد صلي الله عليه وسلم

وَعَلَىٰ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ أَنْ
 او رحمت دوي په ټولو نبیانو او رسولانو باندې داجه

تُصَلِّيَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ عَدَدَ
 رحمت اوليرې زمونير په سردار محمد خپل نبي باندې په شمار

مَا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ
 دهغه چه تا هغه پيدا كړې دې مخكې دده نه چه وواسمان

مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ مَدْحِيَّةً وَالْجِبَالُ
 جوړكړې شوم اوزمكه غوړولې شوم اوغرونه

مُرْسَاةً وَالْبِحَارُ مُجْرَاةً وَالْعُيُونُ
 برابر كړې شوي اودريابونه جاري كړې شوي اوچينه بهيولې شوم

مُنْفَجِرَةً وَالْأَنْهَارُ مِنْهَمِرَةً وَالشَّمْسُ
 او نهرونه روان شوي او نمر

ذکر اللہ تعالیٰ ۲۲۷ الجزب الخامس

مُضِيَّةً وَالْقَمَرُ مُضِيًّا وَالْكَوَاكِبُ
 روپسانه شوم اوسپوړمې رڼا كونكې او ستوري

مُسْتَنْيرَةً كُنْتَ حَيْثُ كُنْتَ لَا يَعْلَمُ
 خليفونكي. وې ته چرته چه وې نه وه معلومه


أَحَدٌ حَيْثُ كُنْتَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَاكَ لَا
 هيچاته چه كوم ځانې وې ته؛ سوا دستانه ته ايكي يوه

شَرِيكَ لَكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 نېشته هيڅوك شريك ستا. اے الله رحمت اوليرې په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ ۝ وَ
 سردار زمونير محمد باندې په شمار د حلم خپل او

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ ۝
 رحمت او ليرې زمونير په سردار محمد باندې په شمار د علم خپل

وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ ۝
 اورحمت اوليرې په سردار زمونير محمد باندې په شمار د کلماتو خپلو



وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ نِعْمَتِكَ ٥

اور رحمت اوليے زونير په سردار محمد باندي په شمار دنعمتونو خپلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلَّ سَمَوَاتِكَ ٥

اور رحمت اوليے په سردار زونير محمد باندي په ډ کوالي د آسمانونو خپلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلَّ أَرْضِكَ ٥

اور رحمت اوليے په سردار زونير محمد باندي په ډ کوالي د زمکې خپلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلَّ عَرْشِكَ ٥

اور رحمت اوليے زونير په سردار محمد باندي په ډ کوالي د عرش خپلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ ٥

اور رحمت اوليے زونير په سردار محمد باندي په وزن د عرش خپلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ مَا جَرَى

اور رحمت اوليے زونير په سردار محمد باندي په شمار د هغه چه جاري شوي دي

بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَصَلِّ عَلَى

ور باندي قلم په لوح محفوظ كني اور رحمت اوليے زونير په سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ مَا خَلَقْتَ فِي

محمد باندي په شمار دهغه مخلوق چه تا پيدا كړي دي په خپلو

سَبْعَ سَمَوَاتِكَ ٥ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اوو آسمانونو كني. او رحمت او ليے زونير په سردار

مُحَمَّدٍ عَدَّةَ مَا أَنْتَ خَالِقٌ فِيهِنَّ ٥

محمد باندي په شمار دهغه مخلوق چه ته ئي پيدا كونكي ئي په دوي كني

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ٥

د قيامت تر ورځې پورې په هره ورځ كني زرځلي

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ

او رحمت او ليے زونير په سردار محمد باندي په شمار

كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَوَاتِكَ إِلَى

دهرځاڅكي چه وريدلي دي ستا د آسمانونو نه ستا

أَرْضِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

زمکې ته د کومې ورځ نه چه تا دنيا پيدا كړي ده د قيامت

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○

ترورخ ہورے بہ ہرہ ورخ کنے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

او رحمت او لیبرے زمونیر بہ سردار محمد باندمے بہ شمار

مَنْ يُسَبِّحُكَ وَيُهَلِّلُكَ وَيُكَبِّرُكَ وَ

دهغه چا چه ستا تسبیح وانی او ستا تهلیل وانی او ستا تکبیر وانی او

يُعَظِّمُكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

ستا تعظیم کوی دکومے ورخ نہ چه تا دنیا پیدا کرے ده د قیامت

يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○

تر ورخ ہورے بہ ہرہ ورخ کنے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

او رحمت او لیبرے زمونیر بہ سردار محمد باندمے بہ شمار

أَنْفُسِهِمْ وَأَلْفَظِهِمْ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دساہ گانو دھغوی اود الفاظ دھغوی اور رحمت اولیبرے زمونیر بہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ نَسَمَةٍ خَلَقْتَهَا فِيهِمْ

محمد باندمے بہ شمار دھروح چه تا پیدا کرے دے بہ دونی کنے

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چه تا پیدا کرے ده دنیا د قیامت تر ورخ ہورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

بہ ہرہ ورخ کنے زرخلے. اے اللہ رحمت نازل کرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ

زمونیر بہ سردار محمد باندمے بہ شمار دوریخو

الْجَارِيَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

چہ منبرے وہی. او رحمت نازل کرے زمونیر بہ سردار محمد باندمے

عَدَدَ الرِّيحِ الذَّارِيَةِ مِنْ يَوْمِ

بہ شمار دھواگمانو چه چلن کوی دکومے ورخ نہ چه تا

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

دنیا پیدا کرے ده د قیامت تر ورخ ہورے بہ ہرہ ورخ کنے

يَوْمِ أَلْفِ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

زرخلی. اے اللہ رحمت اولیہیے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ هَبَّتْ عَلَيْهِ

سردار محمد باندمی پہ شمار دھغہ خیزونو چہ چلییری ورباندمی

الرِّيَّاحُ وَحَرَكَتُهُ مِنَ الْأَغْصَانِ

ھواگانے او حرکت نے ورکھے دیے ورلہ دخانکونہ

وَالْأَشْجَارِ وَالْأَوْرَاقِ وَالنِّمَارِ وَجَمِيعِ

او ذ اونونہ او دہانپونہ او دمیوونہ اوتول ھغہ خہ

مَا خَلَقْتَ عَلَى أَرْضِكَ وَمَا بَيْنَ سَمَوَاتِكَ

چہ تا پیدا کړی دی پہ خپلہ زمکہ باندمی اوپہ مینخ داسمانونو خپلو کینے

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا پیدا کړے دہ دنیا د قیامت تر ورخ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ ھرہ ورخ کینے زرخلے. اے اللہ رحمت اولیہیے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ

زمونیر پہ سردار محمد باندمی پہ شمار دسورو د آسمان

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا پیدا کړے دہ دنیا د قیامت تر ورخ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ ھرہ ورخ کینے زرخلے. اے اللہ رحمت اولیہیے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِثْلَ أَرْضِكَ وَمَا

زمونیر پہ سردار محمد باندمی پہ د کوالی د زمکے خپلے کوم چہ ھغہ

حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ ۝

پورته کړی دی او برداشت کړی نے دی ستا پہ قدرت سرہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار محمد باندمی پہ شمار دھغہ

مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ بَحَارِكَ وَمَا لَا يَبْعَلُهُ

چہ تا پیدا کړی دی پہ اوو دریا بونو خپلو کینے د کومو چہ علم نیشته

عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيهَا

مکرتاته دے او دکوموچہ تہ پیدا کونکے نے پہ دے کنے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○

دقیامت ترورخ ہورے پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندمے پہ شمار

مِائَةِ سَبْعِينَ بِحَارِكِ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دہکوالی داوود دریاہونو ستا او رحمت او لیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ زِنَةَ سَبْعِينَ بِحَارِكِ هَذَا حَمَلَتْ

محمد باندمے پہ وزن داود دریاہونو ستا ہفہ خیزونوسرہ چہ اوچت کرے

وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ ○ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

نے دی اوبرداشت کری نے دی دقدرت ستانہ اے اللہ اورحمت اولیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَمْوَاجِ بِحَارِكِ

زمونیر پہ سردار محمد باندمے پہ شمار دچپو د دریاہونو ستا

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا پیدا کرے دہ دنیا دقیامت ترورخ ہورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے اے اللہ اورحمت اولیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ الْخَصْ

زمونیر پہ سردار محمد باندمے پہ شمار دشکو اوڈ کوت کانرو

فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْضَيْنِ وَسَهْلَيْهَا وَجِبَالِهَا

پہ خانے دقرار دزمکو او دنرے حصے دھغے او ڈغر نیرے حصے دھغے

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے دہ قیامت ترورخ ہورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○ اللَّهُمَّ

پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے اے اللہ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ إِصْطِرَاطِ

اورحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندمے پہ شمار ڈ خو کیدلو

الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ وَالْمِلْحَةِ مِنْ يَوْمٍ

دخورد او بو او ذ مالکینو او بو ذ کومے ورخ نه چه تا

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

بیدا کرے ده دنیا ذ قیامت ترورخ پورے به هره

يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورخ کنیے زرخلیے او رحمت او لیرے زمونیر به سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَهُ عَلَى جَدِيدٍ

محمد بانده به شمار دهغو چه تا پیدا کری دی به مخ دزمکه خلیے

أَرْضِكَ فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْضِينَ شَرْقَهَا

به مینخ ذ محائے قرار دزمکو دهغے دمشرق

وَعَرْبَهَا وَسَهْلَهَا وَجِبَالَهَا وَأَوْدِيَّتَهَا

اودهغے دمغرب اودهغے دهموارے حصے اودغریزے حصے او دهغے

وَطَرِيقَهَا وَعَامِرَهَا وَغَامِرَهَا إِلَى

دخوردونواو ذلارو اودهغے دآبادے حصے او دشارے حصے تر هغه

سَائِرِ مَا خَلَقْتَهُ عَلَيْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ

شیزونو پورے چه تا پیدا کری دی به دے بانده اوخه چه به دے کنیے

حِصَاةٍ وَمَدْرٍ وَحَجْرٍ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ

دی ذکوت کانرونه اودلو تونه اودکانرونه ذکومے ورخ نه چه تا پیدا کرے ده

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دنیا د قیامت ترورخ پورے به هره ورخ کنیے

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

زرخلیے ای الله رحمت او لیرے زمونیر به سردار

مُحَمَّدٍ نَبِيَّ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ

محمد نبی بانده به شمار د شینکو دزمکه

مِنْ قِبَلَتِهَا وَشَرْقَهَا وَعَرْبَهَا وَسَهْلَهَا

دقلیے دهغے زنه اودمشرق دهغے نه اودمغرب دهغے نه اودهموارے دهغے نه

وَجِبَالِهَا وَأَوْدِيَّتِهَا وَأَشْجَارِهَا وَ

او ذ شریزے دهغے نه او ذخوردونو دهغے نه اوداونو دهغے نه او

ثَمَارِهَا وَأَوْرَاقِهَا وَزُرُوعِهَا وَجَمِيعِ

دَمِيوُ دَهغِي نِه اَوْ ذَبَاتِرُو دَهغِي نِه اَوْ دَفْصَلُونُو دَهغِي نِه اَوْ دَتُولُو هَغِي خِيَزُونُو نِه

مَا يَخْرُجُ مِنْ تَبَاتِيهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ

جِه رَاؤُخِي دَشِيئِكُو دَهغِي نِه اَوْ ذَبَرَ كَتُونُو دَهغِي نِه ذَكُومِي وَرُخِ نِه

يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

جِه تَا دُنْيَا پِيدَا كَرِي دِه دَقِيَامَتِ تَرِ وَرُخِي پُورِي نِه

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

هَرِه وَرُخِ كِنِي زُرُخَلِي اِي اللّٰهُ اَوْ رَحْمَتِ اَوْ لِيَجِي

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

زَمُونِي پِه سَرْدَارِ مُحَمَّدِ بَانَدِي پِه شَمَارِ دَهغِي جِه تَا پِيدَا كَرِي دِي

مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ وَمَا

دِپِيرِيَانُونِه اَوْ دَانَسَانَانُونِه اَوْ دَشِيْطَانَانُونِه اَوْ شِه جِه تِه

أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

پِيدَا كُونَكِي نِي دَهغِي نِه دَقِيَامَتِ تَرِ وَرُخِ پُورِي نِه

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

هَرِه وَرُخِ كِنِي زُرُخَلِي اِي اللّٰهُ اَوْ رَحْمَتِ اَوْ لِيَجِي

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ

زَمُونِي پِه سَرْدَارِ مُحَمَّدِ بَانَدِي پِه شَمَارِ دَهْرِيُو وَ پِنْتِه پِه

فِي أَيْدِيهِمْ وَفِي وُجُوهِهِمْ وَعَلَى رُءُوسِهِمْ

بَلُونُو دَهغِي كِنِي اَوْ پِه مَخُونُو دَهغِي كِنِي اَوْ پِه سَرُونُو دَهغِي كِنِي

مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

دَكَلِه رَا سِي جِه تَا دُنْيَا پِيدَا كَرِي دِه دَقِيَامَتِ تَرِ وَرُخِ پُورِي نِه

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى

هَرِه وَرُخِ كِنِي زُرُخَلِي اِي اللّٰهُ اَوْ رَحْمَتِ اَوْ لِيَجِي پِه

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَفَقَاتِ الطَّيْرِ

سَرْدَارِ زَمُونِي مُحَمَّدِ بَانَدِي پِه شَمَارِ ذَخَانِكُونُو خُو زُولُو دِمَارِ غَانُو

وَطَيْرَانَ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ مِنْ يَوْمِ

اَوْ ذَالُو تَلُو دِپِيرِيَانُو اَوْ دَشِيْطَانَانُو ذَكُومِي وَرُخِ نِه جِه

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

تا دنیا پیدا کرے وہ د قیامت ترورخ پورے پہ ہرہ

يَوْمِ أَلْفِ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى

ورخ کنے رخلے۔ اے اللہ او رحمت او لیرے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ نَبِيٍّ خَلَقْتَهَا

سردار محمد باندے پہ شمار دھر غناورچہ تا پیدا کرے دے

عَلَى جَدِيدِ أَرْضِكَ مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

پہ مخ دزمکے خیلے کہ ورکو تے وی او کہ لونے وی

فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِنْ

پہ مشرقونو دزمکے کنے او پہ مغربونو دھے کنے دبنیاد مونہ

أَنْسِهَا وَجَنَّتْهَا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا

او د پیریانونہ او دھغہ غیزونونہ چہ نیشہ معلومات دھے مگر

أَنْتَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

تاکہ د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے وہ د قیامت ترورخ پورے

الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ

پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے۔ اے اللہ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَطَايَاهُمْ

اورحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار دقدمونو دھغوی

عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

دزمکے پہ مخ باندے د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے وہ

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ

د قیامت ترورخ پورے پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے۔

مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ او رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ۝ وَ

محمد باندے پہ شمار دھغہ چاچہ درود لیری پہ ہغہ باندے۔ او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ

رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار دھغہ چا

لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

چہ درود نے نہ دے لیکلے پہ ہغوی باندے . اور رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ

محمد باندے پہ شمار دشاخکو او د باران او د شینکو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ كَلْبٍ

او رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار دتولو

شَيْءٍ ۝ اَللّٰهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

خیزونو . اے اللہ او رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ فِي الْبَيْتِ اِذَا اَيْغَشَى ۝ وَصَلِّ

محمد باندے پہ شہہ کنے چہ کلہ راخوره شی اور رحمت اولیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ اِذَا

زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ ورخ کنے کلہ چہ

تَجَلَّى ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي

او خلیہی . اور رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ

اَلْاٰخِرَةِ وَالْاٰوَّلِي ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اخرت کنے ہم او پہ دنیا کنے ہم . اور رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ شَابًا زَكِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد باندے چہ خوان پاکیزہ وو اور رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ كَهْلًا مَّرْضِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى

محمد باندے چہ پوخ عمرے پسندیدہ وو اور رحمت اولیہے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُنْذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ

سردار زمونیر محمد باندے کلہ چہ ووہفہ پہ خانگو کنے

صَبِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ماشوم . اور رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندے

حَتّٰى لَا يَبْقَىٰ مِنَ الصَّلٰوةِ شَيْءٌ ۝ اَللّٰهُمَّ

تو دے پورے چہ پاتے نشی د درود نہ خہ شے . اے اللہ

وَاعْطِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا اِلٰهَ قَوْمِ الْمَحْمُوْدِ

او ورکرے زمونیر سردار محمد تہ مقام محمود

الَّذِي وَعَدْتَهُ الَّذِي إِذَا قَالَ صَدَّقْتَهُ

دکرم چہ تاوعدہ کرے ہفہ سرہ ہفہ ہستی چہ کلہ نے خبرہ او کرہ نوتارے

وَإِذَا سَأَلَ أَعْطِيَتْهُ ۝ اللَّهُمَّ وَاَعْظُم

تصدیق او کرو او کلہ دے چہ سوال او کر دنوتاواتہ واکرہ او کبرہ امے اللہ

بُرْهَانَهُ وَشَرَفَ بِنْيَانَهُ وَأَبْلَجَ حُجَّتَهُ

اولو نے کرے دلیل دھغہ او او چتہ کرے بنا دھغہ اورو بنا نہ کرے دلیل دھغہ

وَبَيَّنَ فَضِيلَتَهُ ۝ اللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ

او ظاہر کرے فضیلت دھغہ . امے اللہ او قبول کرے . شفاعت دھغہ

شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ ۝ وَاسْتَعْمَلْنَا سُنَّتَهُ

پہ بارہ دامت خہل کنبے . او مونیرہ روان کرے پہ طریقہ دھغوی

وَتَوَقَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَأَحْشَرْنَا فِي زُمْرَتِهِ

اومونیرہ وفات کرے پہ ملت دھغوی اومونیرہ پاسوے پہ دلہ دھغوی کنبے

وَتَحْتَ لُؤَائِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُقَقَائِهِ

او لانڈے دجھنڈے دھغوی او مونیرہ او مگر خوے ملگری دھغوی .

وَأُورِدْنَا حَوْضَهُ وَأَسْقِنَا بِكَاسِهِ وَ

اومونیرہ ورو لے دھغوی حوض تہ او یہ مونیرہ شکل او کرے دھغوی دجام نہ او

انْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ ۝ اللَّهُمَّ أَمِينَ ۝ وَ

مونیرتہ فائدہ را کرے دھغوی پہ محبت سرہ . امے اللہ دادعامو قبولہ کرے . او

أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي دَعَوْتُكَ بِهَا

سوال کرم لتانہ ستایہ ہفہ نو مونو سرہ چہ مارا ہلے کنبے پہ ہفہ سرہ

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

چہ رحمت اولیرہ ز مونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار دھغے چہ

وَصَفْتُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ

صفت نے کرے دے ما او یہ مقدار دھغے چہ نہ دے معلوم علم دھغے مگر تانہ

وَأَنْ تَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي

اوداچہ رحم او کرے پہ ماہاندے او توبہ مے قبولہ کرے او عافیت را لہ را کرے

مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي

دتولو بلاگانوہ او غمونونہ او داچہ بخینہ او کبرے ماتہ

وَلَوْ أَلَدَيْ وَتَرَحَّمِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

او خمامور پلارته اورحم و کره په مومنانوسر و او په مومنانو بنحو بانده

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الرَّحَبَاءِ مِنْهُمْ

او په مسلمانانوسر و او په مسلمانانو بنحو بانده خوک چه ژوندي دي په

وَالْأَمْوَاتِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ

دوی کے او خوک چه مره دي او دا چه او بخینه بنده خپل فلان

ابْنِ فُلَانٍ الْمُدْنِبِ الْخَاطِئِ الضَّعِيفِ

خونے ذفلائي چه گنهکار دے 'خطا کار دے' کمزور دے او دا چه نظر

وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَنُورٌ رَّحِيمٌ

درحمت او کره په ده بانده بیشکه ته ډیر بخینو که ډیر مهربان ئے

اللَّهُمَّ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

یا الله دعامے قبوله کره اے دعالمونو پروردگار ه . فرمائیلی دي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

رسول الله صلی الله علیه وسلم چا چه

قَرَأَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ

اولو ستلو دا درور یوخل نو او به لیکي الله تعالی

اللَّهُ لَهُ ثَوَابٌ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ وَثَوَابٌ

هغه دياره ثواب د قبول شوي حج او ثواب دهغه چا

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِّنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ

چه آزاد کرې غلام د اولاد ذ اسماعیل

عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا

عليه السلام نه' پس فرمائي الله تعالی چه دے

مَلِكِي هَذَا عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِي

فرشتو دا یو بنده دے حما د بندگانونه چه زیات درود

أَكْثَرَ الصَّلَاةِ عَلَى حَبِيبِي مُحَمَّدٍ

ئے ویلے دے خمایه حبیب محمد بانده پس حما دقسم وي په خپل

قَوْعَزَّتِي وَجَلَالِي وَجُودِي وَمَجْدِي

عزت او په خپل جلال او په خپل سخاوت او په خپلے بزرگني بانده .

وَأَرْفَعُنِي لِأَعْظَمِيَّةِ بِكُلِّ حَرْفٍ صَلَّ

اوپه خپل او جوالي چه زه به ضرور وړ کړم ده ته په عوض دهر حرف باندي

بِهِ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ وَلِيَأْتِيَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

چه ده درو دليکله دې به هغه سره يو محل په جنت کښه اوده به راځي ماله

تَحْتَ لُؤَاءِ الْحَمْدِ نُورُ وَجْهِهِ كَالْقَمَرِ

دقيامت په ورځ دحمد جهنله دلاندې دده دمخ رنر ابه په شان د خوار لسمه

لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَفَّهُ فِي كَفِّ جَيْبِي مُحَمَّدٍ

شبه د سپوږمۍ وي او دده لاس به څما د حبيب محمد په لاس کښ وي

هَذَا الْمَنْ قَالَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ

دا فضيلت هغه چا دپاره دې چه دا او وائي دهره جمع په ورځ

لَهُ هَذَا الْفَضْلُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

هغه د پاره دا فضيلت دې، او الله دلورنې فضل خاوند دې

وَفِي رِوَايَةٍ ۞ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ

اوپه پوروايت کښه دي اے الله زه سوال کوم تانه په وسيله دهغه چا

مَا حَمَلَ كُرْسِيَّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ

چه او چته کږه تې ده کرسی ستا ستا دعظمت نه

وَقُدْرَتِكَ وَجَلَالِكَ وَبِهَائِكَ وَ

او ستا دقدرت نه او ستا دجلال نه او ستا د رنرانه او

سُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ اسْمِكَ الْمَخْزُونِ

ستا د بادشاهۍ نه او په وسيله دنوم ستا چه خزانه شوه

الْمَكْنُونِ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَ

او پټ شوه دې هغه چه تانوم ايښه دې په ذات خپل او

أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ وَأَسْتَأْثَرْتُ بِهِ

تا نازل کړه دې په خپل کتاب کښه او تا اختيار کړه دې

فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ إِنَّ تَصَلِّيَ عَلَيَّ

په علم غيب کښه خپل خان سره چه رحمت او ليرې به

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ

سردار زمونږ محمد باندي چه ستا بنده او رسول دې او

أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ

سوال کوم تانہ ستادھغہ نوم پہ وسیلے سرہ چہ کلہ تہ راویلے شے پہ ہغے

أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ

سرہ نوقبولوالے کومے او کلہ چہ سوال او کرمے شی تانہ پہ ہغے سرہ نور کرہ

وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى

کومے او سوال کوم تانہ ستادھغہ نوم پہ وسیلے سرہ چہ تا کینودو پہ

الْبَيْلِ فَأَظْلَمَ

شہہ باندے نو تبارہ شولہ او پہ ورخ باندے نو رنہا شولہ

وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ

او پہ آسمانونو باندے نو قائم شول او پہ

الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ

زمکہ باندے نو قرار ئے او نیوز، او پہ غرونو باندے

فَرَسَتْ

نو مضبوط شول او پہ سختہ زمکہ باندے نو نرمہ شولہ

وَعَلَى مَاءِ السَّمَاءِ فَسَكَبَتْ

او پہ اوبود آسمان باندے نور اتونے شوے او پہ وریخ باندے نواو وریدہ، او

فَأَمْطَرَتْ

سوال کوم تانہ پہ ہغہ دعاسرہ چہ سوال کرمے ووتانہ پہ ہغے سرہ زمونیرہ

مَحَمَّدٌ نَبِيِّكَ

سردار محمد چہ ستا نبی دے او سوال کوم تانہ پہ ہغے سرہ چہ سوال کرمے ووتانہ

سَيِّدِنَا أَدَمُ نَبِيِّكَ

پہ ہغے سرہ زمونیرہ سردار آدم چہ ستا نبی ووا سوال کوم تانہ پہ ہغے سرہ

بِهِ أَنْبِيَاءُ وَكَوْرُسُلِكَ وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقْرَبُونَ

چہ سوال کرمے ووتانہ پہ ہغے سرہ نبیانو ستا اور سولانوستا او مقربو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

فرشتو ستاد اللہ رحمت دوی پہ ہغوی تہولو باندے، او سوال کوم تانہ

بِمَا سَأَلْتَ بِهِ أَهْلَ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

پہ ہغے سرہ چہ سوال کرمے ووتانہ پہ ہغے سرہ ستا تہولو تابعدارو بندگانو

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ
 چه ته رحمت او ليرے زمونير په سردار محمد باندي او په آل
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ
 د سردار زمونير محمد باندي په شمار دهغه مخلوق چه تا پيدا كړې دے
 قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ
 مخكښې ددې نه چه اسمان جوړ كړې شوه وو او زمكه
 مَطْبِيَّةً وَالْجِبَالُ مَرْسِيَّةً وَالْعَيُونُ
 غورولې شوه وه او غرونه محكم شوي وو او چينه
 مَنْفَجِرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مِنْهُمْ رَوَّانَةٌ وَالشَّمْسُ
 جاري شوه وه او نهرونه روان كړې شوي وو او نمر
 مُضْحِيَّةً وَالْقَمَرُ مُضِيًّا وَالْكَوَاكِبُ مُنِيرَةٌ
 خليدې وو او سپوږمې روښانه شوه وه او سعوري خليدلي وو
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ
 اے الله رحمت او ليرے زمونير په سردار محمد باندي او زمونير

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عَلِيمِكَ ۝ وَ
 د سردار محمد په آل باندي په شمار د علم ستا او
 صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا
 رحمت او ليرے زمونير په سردار محمد باندي او په آل د سردار زمونير
 مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَحْلَمِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
 محمد باندي په شمار د حلم ستا او رحمت او ليرے زمونير په سردار
 مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ
 محمد باندي او زمونير د سردار محمد په آل باندي په شمار
 مَا أَحْصَاهُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ مِنْ عِلْمِكَ
 دهغه چه راكبر كړي دي لوح محفوظ د علم ستانه
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ
 او رحمت او ليرے زمونير په سردار محمد باندي او په
 آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَىٰ بِهِ
 آل د سردار زمونير محمد باندي په شمار دهغه چه جاري شوه دے

الْقَلَمُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ عِنْدَكَ ○ وَ

قلم پہ لوح محفوظ کتبے ستا پہ نزد او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

رحمت اولیے زمونیرہ سردار محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیرہ

مُحَمَّدٍ قُلِّ سَمَوَاتِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد باندے پہ ذکوالی د آسمانوں اور رحمت اولیے زمونیرہ پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُلِّ

محمد باندے او زمونیرہ د سردار محمد پہ آل باندے پہ ذکوالی

أَرْضِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د زمکے ستا او رحمت اولیے زمونیرہ پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّ مَا أَنْتَ

او زمونیرہ د سردار محمد پہ آل باندے پہ ذکوالی د ہفتہ

خَالِقُهُ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

چہ تہ نے پیدا کونکے نے ذکومے ورخے نہ چہ تہ دنیا پیدا کرے دہ ترورخ

الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د قیامت پورے اے اللہ رحمت اولیے زمونیرہ پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ صُفُوفِ

او زمونیرہ د سردار محمد پہ آل باندے پہ شمار د صفوں

الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِهِمْ وَتَقْدِيرِهِمْ

د فرشتوں او د ہفتوں د تسبیح او د ہفتوں د تقدیس

وَتَحْمِيدِهِمْ وَتَمْجِيدِهِمْ وَتَكْبِيرِهِمْ وَ

او د ہفتوں د تحمید او د ہفتوں د تمجید او د ہفتوں د تکبیر او

تَهْلِيلِهِمْ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

د ہفتوں د تہلیل د کومے ورخ نہ چہ تہ دنیا پیدا کرے دہ تر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورخ د قیامت پورے اے اللہ رحمت اولیے زمونیرہ پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد او زمونیرہ د سردار محمد پہ آل باندے پہ شمار

السَّحَابِ الْجَارِيَةِ وَالرِّيَّاحِ الدَّارِيَةِ

دورینخو منابو وهونکو او دھواکانو چلیدونکو

○ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخے نہ چہ تا دنیا پیدا کرے ده د قیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اورحمت او لیرے زمونیر په سردار محمد باندمے او په

أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ

آل د سردار زمونیر محمد باندمے په شمار دهر شاخکی

تَقْطُرُ مِنْ سَمَوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ وَمَا

چه را پروخی ستا د آسمانونونه ستا زمکے طرفته او هغه چه

تَقْطُرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

راخاشی د قیامت ترورخ پورے. ایے الله رحمت او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَبِي سَيِّدِنَا

زمونیر په سردار محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَّاحُ وَعَدَدَ

محمد باندمے په شمار د هغه چه لیري هواکانے او په شمار د هغه

مَا تَحَرَّكَتِ الْأَشْجَارُ وَالْأَوْراقُ وَ

چه حرکت کوي اونے او بانرے او

الزُّرُوعُ وَجَمِيعَ مَا خَلَقْتَ فِي قَرَارِ

فصلونه او تول هغه خه چه تا پیدا کړي دي په قرار

الْحِفْظِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

د حفظ کنې د کومے ورخ نه چه تا پیدا کرے ده دنیا ترورخ

الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ


د قیامت پورے. ایے الله رحمت او لیرے زمونیر په سردار محمد باندمے

وَعَلَى أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے په شمار د شاخکو

وَالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

اوبارانونو او شینکود کومے ورخ نه چه تا پیدا کرے ده



اللَّهُ نَبِيًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

دنیاد قیامت ترورخ پورے۔ اے اللہ رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ مِنْ

محمد باندے پہ شمار دستورو پہ آسمان کنے دکومے

يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

ورخ نہ چہ تا پیدا کرے ده دنیا د قیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ آل

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي

د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دھغے چہ تا پیدا کرے دی پہ

بِحَارِكِ السَّبْعَةِ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا

پہ خپلو اوو سمندر ونو کنے دکومو علم چہ ہیجا ته نیشته سوا

أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

دستانه اوپہ شمار دھغے چہ ته نے پیدا کونکے نے دقیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى

آل د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د شکر او کوت کانرو

فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ۝

پہ مشرقونو د زمکے کنے او پہ معزبونو دھغے کنے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دھغے چہ تا پیدا کرے دی

مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَمَا أَنْتَ خَالِقَةٌ

د پیریانو او انسانانونه او کوم چہ ته پیدا کونکے نے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دقیامت ترورخ پورے۔ اے اللہ رحمت اولیہیے زمونیر پہ سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد باندهیے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندهیے

عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ وَالْحَاظِهِمْ

پہ شمار دسہ گانو دھغوی او ذ الفاظو دھغوی او دکتلو دھغوی

مَنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے دہ دقیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیہیے زمونیر پہ سردار محمد باندهیے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ طَيْرَانِ الْجَنِّ

آل د سردار زمونیر محمد باندهیے پہ شمار د آلوتلول د پیریانو

وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

او د ملائکو د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے دہ تر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورخ د قیامت۔ اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد باندهیے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندهیے پہ شمار

الطُّيُورِ وَالْهَوَامِّ وَعَدَدِ الْوُحُوشِ وَ

دمارغانو او د زمکے د چینجو او پہ شمار د خنکلی ٹخاورو او

الْأَكَامِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ۝

پہ شمار د دیرکو د زمکے پہ مشرقونو کنبے او پہ مغربونو کنبے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى


اے اللہ رحمت اولیہیے زمونیر پہ سردار محمد باندهیے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَخْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ

آل د سردار زمونیر محمد باندهیے پہ شمار د ژوندو او د مرو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار محمد باندهیے او پہ



اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا اَظْلَمَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دھغه خیزونو چه تیاره شوه ده

عَلَيْهِ الْبَلُّ وَاشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ مِنْ

وربانده شهبه او روپانسه شوه ده وربانده ورخ دکومے

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

ورخ نه چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قیامت ترورخ پورے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت او لیرے زمونیر په سردار محمد باندے او په

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَّمْشِي

آل د سردار زمونیر محمد باندے په شمار دھغه چاچه گرخی

عَلَى رَجُلَيْنِ وَمَنْ يَّمْشِي عَلَى اَرْبَعٍ مِنْ

په دوؤ خپو باندے او خوک چه گرخی په څلورو خپو دکومے

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

ورخ نه چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قیامت ترورخ پورے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت او لیرے زمونیر په سردار محمد باندے او په آل

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ

د سردار زمونیر محمد باندے په شمار دھغه چاچه درودنے لیرلے وی په هغه

مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ

بانده د پیریانو او انسانانوسه او د ملائکونو دکومے ورخ نه

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قیامت ترورخ پورے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى


اے الله رحمت او لیرے زمونیر په سردار محمد باندے او په

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ

آل د سردار زمونیر محمد باندے په شمار دھغه چاچه درود لیرلے په هغوی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بانده اے الله رحمت او لیرے زمونیر په سردار محمد باندے او په



إِلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ
 عَلَيْهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَجِبُ أَنْ
 يُصَلَّى عَلَيْهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا
 يَسْتَبِغُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل دسردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دہفہ چاچہ درود نے نہ دے لیکلے
 پہ ہغوی باندے۔ اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے
 او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ واجب دی
 درود لیکل پہ ہغوی باندے۔ اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار
 محمد باندے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے خنکہ چہ
 بنائیری درود لیکل پہ ہغوی باندے۔ اے اللہ رحمت اولیرے پہ
 سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

حَتَّى لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِّنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ○
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي
 الْأَوَّلِينَ ○ وَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 فِي الْآخِرِينَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَائِكَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ○
 مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○

تر دے چہ باقی باتے نشی ہیخ غیز د درود نہ پہ ہغوی باندے اے اللہ
 رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ رومینو خلقو کنے
 اور رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ روستنو خلقو
 کنے۔ اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے داوحت
 مجلس فرشتو کنے د قیامت ترورخ پورے شہ چہ اللہ او غواری ہفہ
 کبیری نیشته دے قوت مگر پہ امداد اللہ سرہ چہ او چت او لورے دے

الْحَزْبُ السَّادِسُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ

شہرم حزب دخالی د ورخے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت او لہجے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے او ورکھے ہفہ تہ وسیلہ

وَالْفَضِيلَةَ وَالدرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ

او فضیلت او درجہ او چتہ او وے رسوم

مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ

مقام محمود تہ دکوم چہ ورسرہ تاوعده کرے دہ بیشکہ

لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ اللَّهُمَّ عَظِّم

تہ دوعدے خلاف نہ کوے اے اللہ او چت کرے

شَانَهُ وَبَيِّنْ بَرَهَانَهُ وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ

شان دھغوی او ظاہر کرے دلیل دھغوی اور وبنانہ کرے حجت دھغوی

وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي

او ظاہر کرے فضیلت دھغوی او قبول کرے شفاعت دھغوی پہ

أُمَّتِهِ وَاسْتَعْمِلْنَا لِسُنَّتِهِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

امت دھغوی کنجے او مونیر عمل کونکی کرے پہ سنت دھغوی اے

وَيَا رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ

رب العالمینہ او اے دعرش عظیم رہہ اے اللہ

يَا رَبِّ احْشُرْنَا فِي زَمْرَتِهِ وَتَحْتَ

اے رہہ پاسوم مونیرہ پہ ذلہ دھغوی کنجے او لاندے د جھنہے دھغوی

لِوَالِيهِ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ وَانْفَعْنَا بِحَبَّتِهِ

او او حکوم پہ مونیرہ دجام دھغوی نہ او نفع را کرے پہ محبت دھغوی

أَمِينَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ

سرہ دا دعا موقبولہ کرے اے رب العالمینہ اے اللہ اے پروردگارہ

يَلِّغُهُ عَنَّا أَفْضَلَ السَّلَامِ وَأَجْزِهِ عَنَّا

اور سوم ہغوی تہ زمونیر دطرفہ غورہ سلام او بدلہ ورکھے زمونیر دطرفہ

أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ النَّبِيَّ عَنْ أُمَّتِهِ

غوره دهغه نه چه تا بدله ور کرے ده په هغه سره یونې ته دخپل امت

يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ إِنِّي

د طرفه اے رب العالمینہ اے الله پروردگارہ بیشک زه سوال کوم

أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ

تانه چه بخښنه راته او کرے اور رحم راباندے او کرے او توبه قبوله کرے

عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ

خما او عافیت راله راکرے دتولو بلاکانونه او آفتونونه

الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ وَالنَّازِلِ مِنَ

کوم چه راوځي دزمکه نه او کوم چه راکوزيزي

السَّمَاءِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

د آسمان نه بیشک ته په هر څيز باندے قدرت لرونکے ئے

بِرَحْمَتِكَ وَأَنْ تَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

په خپل رحمت سره او دا چه او بخښے مومنان سړي او مومنانې ښځه

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

او مسلمانان سړي او مسلمانانې ښځه کوم چه ژوندي دي ددوی نه

وَالْأَمْوَاتِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَرْوَاحِهِ

او کوم چه مړه دي او راضي دشي الله دپاکو بښانو

الطَّاهِرَاتِ أَهْمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ

د پيغمبرنه چه ميندے دمومنانو دي او راضي دشي الله

اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ أُمَّةِ الْهُدَى

د هغوی د اصحابو کرامونه کوم چه امامان دهدايت دي

وَمَصَابِيحِ الدُّنْيَا وَعَنِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِ

او دپوه ددنیا دي او دتا بعينونه او د تبع

التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

تابعينونه دپاره دهغوی سره احسان نه د بدلے ورځ پورے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

او ټول تعريفونه ثابت دي الله لره چه پروردگار د عالمونودے

اِبْتِدَاءُ التَّلَاثِ التَّالِثِ

ابتدا د دریم ثلث

اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ

یا - الله پروردگار دروحوونو او بدنونو

الْبَالِيَةِ أَسْأَلُكَ بِطَاعَةِ الْأَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ

کوم چه وراسته شوي دي سوال کوم تانه په طاعت دروحوونوسره چه رجوع

إِلَى أَجْسَادِهَا وَبِطَاعَةِ الْأَجْسَادِ الْمَلْتَمَةِ

کونکي دي خپلو بدنونو ته او په طاعت د بدنونوسره چه يوځانې شوي دي

بِعُرُوقِهَا وَبِكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ فِيهِمْ وَ

خپلورگونوسره اوستا په کلماتوسره کوم چه جاري دي په دوی کښې او

أَخَذِكَ الْحَقُّ مِنْهُمْ وَالْخَلَائِقُ بَيْنَ

په وسيله د حق ستا له دوی نه او مخلوقات چه ستا په

يَدَيْكَ يَنْتَظِرُونَ فَصَلِّ قَضَائِكَ وَ

وراندي دي انتظار کوي ستا د حکم فيصلې ته او

يَرْجُونَ رَحْمَتَكَ وَيَخَافُونَ عِقَابَكَ

اميدلري درحمت ستا او يريروي د عذاب ستانه

أَنْ تَجْعَلَ التُّورَفِي بَصَرِي وَذِكْرَكَ

چه ته واچوي نور شما په سترگو کښې او ذکر کول ستا

بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ عَلَى لِسَانِي وَعَمَلًا

د شپې او دورځ شما په ژبه او عمل

صَالِحًا فَارْزُقْنِي ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نيک راته نصيب کړې. اے الله رحمت او ليرې په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى


سردار زمونږ محمد باندي څنگه چه تارحمت ليكلې دې په

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

سردار زمونږ ابراهيم باندي او برکت او ليرې په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ ۝

محمد باندي څنگه چه تابرکت ليكلې دې زمونږ په سردار ابراهيم باندي



اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ

اے اللہ نازل کرے رحمتوںہ خیل او برکتوںہ خیل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے او پہ آل دسردار زمونیر

مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

محمدؐ باندے خنکے چہ تا نازل کرے دے پہ سردار زمونیر ابراہیمؑ

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

او پہ آل دسردار زمونیر ابراہیمؑ باندے بیشکے تہ دیر ستائیلے شوے

مَجِيدٌ ۞ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دبزرگیٰ خاوندے۔ او برکت او لیرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

او پہ آل دسردار زمونیر محمدؐ باندے خنکے چہ تا برکت لیکلے دے

عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پہ سردار زمونیر ابراہیمؑ باندے او پہ آل دسردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۞ اللَّهُمَّ

ابراہیم باندے بیشکے تہ دیر ستائیلے شوے دتریفونو خاوندے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ

رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے کوم چہ ستابندے دے او

رَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ

ستا رسول دے او رحمت او لیرے پہ مومنانو سرو او

الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

پہ مومنانو بنحو او پہ مسلمانانو سرو او مسلمانانو بنحو باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے او

عَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ

پہ آل دھغہ پہ شمار دھغے چہ احاطہ کرے دہ ورباندے علم ستا او

أَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَشَهِدْتُ بِهِ مَلَائِكَتِكَ

راکیر کری دی کتاب ستا او گواہی کرے دہ پہ ہغے سرہ فرشتو ستا

صَلَاةً دَائِمَةً تَدُومُ يَدَاؤِ مَلِكِ اللَّهِ

رحمت دهميشه والي چه هميشه وي سره دهميشه والي دملک دالله

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْعِظَامِ

اي الله زه سوال کوم تا نه په وسيله دلويو نومونو ستا

مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَلَا بِأَسْمَاءِ

کوم چه معلوم دي ماته او کوم چه راته نه دي معلوم او په وسيله دهغه نومونو

الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا

چه ايخي دي تا په خپل ذات باندې کوم چه ماته معلوم دي

وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَن تَصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

او کوم چه ماته نه دي معلوم داچه رحمت اوليرې په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ

محمد باندې کوم چه ستانده دې او ستا رسول دې

عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ

په شمار دهغه چه تا پيدا کړي دي مخکې ددې نه چه وو

السَّمَاءِ مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضِ مَدْحِيَّةً وَ

اسمان جوړشوي او زمکه غوړولې شوي او

الْجِبَالِ مَرْسِيَّةً وَالْعِيُونَ مُنْفَجِرَةً وَ

غرونه محکم شوي او چينې جاري کېږي شوي او

الْأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةً

بهرونه روان کېږي شوي او نمر خپلې

وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالْكَوَاكِبُ مُسْتَبِيرَةً

او سپوږمې روښانه شوي او ستوري روښانه شوي

وَالْبِحَارُ مُجْرِيَةً وَالْأَشْجَارُ مُثْمِرَةً

او دريا بونه جاري شوي او اوانې ميوه دارې شوي

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اي الله رحمت او ليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار

عَلَيْكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دعلم ستا او رحمت او ليرې په سردار زمونږ محمد باندې



عَدَّةٌ حَلِيمَةٌ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

په شمار دحلم ستا او رحمت او ليرے په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ كَلِمَاتِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى

محمد باندے په شمار دكلماتو ستا او رحمت او ليرے په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ دِنِعْمَتِكَ ۝ وَ

سردار زمونږ محمد باندے په شمار د نعمت ستا او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ فَضْلِكَ

رحمت او ليرے په سردار زمونږ محمد باندے په شمار د فضل ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ جُودِكَ

اور رحمت اوليرے په سردار زمونږ محمد باندے په شمار داسمانونو ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ سَمَوَاتِكَ

اور رحمت اوليرے په سردار زمونږ محمد باندے په شمار د زمكو ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ أَرْضِكَ

اور رحمت اوليرے په سردار زمونږ محمد باندے په شمار د زمكو ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ مَا

او رحمت او ليرے په سردار زمونږ محمد باندے په شمار د شمار د

خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَوَاتِكَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ

مخلوق ستا په اوو اسمانونو كښے د ملائكو ستا نه او رحمت او

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ مَا

ليرے په سردار زمونږ محمد باندے په شمار د هغه مخلوق چه

خَلَقْتَ فِي أَرْضِكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

تا پيدا كړے دے په زمكه خپله كښے د پيريانو او بنيادمونه او د دوى

وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ وَغَيْرِهِمَا

نه سوا دڅنگلي خنا و رونه او دمارغانو نه او سوا د دوى نه او رحمت

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةٌ مَا جَرَى

اوليرے په سردار زمونږ محمد باندے په شمار دهغه چه جاري شوه دے

بِهِ الْقَلَمُ فِي عِلْمِ غَيْبِكَ وَمَا يَجْرِي بِهِ

په هغه سره قلم په علم غيب ستا كښے او په كوم څه چه به جاري كيرى

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د قیامت ترورخے پورے اور رحمت اولیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے

عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ شمار د شاخکو او دباران او رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ

محمد باندے پہ شمار دهغه چاچہ سنا ثنا وانی او ستاشکر کوی

وَيُهَيِّلُكَ وَيَمْجِدُّكَ وَيَشْهَدُ أَنَّكَ

او ستا تهلیل وانی او ستا لونی بیانوی او کواهی ورکوی چه بیشکه

أَنْتَ اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

تہ اللہ ہے اور رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار

مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ وَ

دهغه چه تا درود لیبرے دے پہ هغه باندے او فرشتو ستا اور رحمت

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى

اولیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار دهغه چاچہ درود لیکلے دے

عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ هغوی باندے دمخلوق سنا نہ او رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ

محمد باندے پہ شمار دهغه چاچہ درود نے نہ دے لیکلے پہ هغوی باندے

خَلْقِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ستاد مخلوق نہ او رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے

عَدَدَ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ وَالْحَصَى ○ وَ

پہ شمار دغرونو او د شکو او د کوت کانرو او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الشَّجَرِ وَ

رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار داونو او

أَوْ رَاقِهَا وَالْمَدْرِ وَأَثْقَالِهَا ○ وَصَلِّ عَلَى

دهغه دپانرو او د لوتو او دهغه د بوجونو اور رحمت او لیبرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ وَمَا

سردار زمونیرہ محمد باندے پہ شمار دهر کال او هغه چه

تَخْلُقُ فِيهَا وَمَا يَمُوتُ فِيهَا ○ وَصَلِّ

چه ته نئے پیدا کوئے په دے کنئے او هغه چه مري په دے کنئے 'او رحمت

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَخْلُقُ كُلَّ

اولیبرے په سردار زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چاچه ته نئے پیدا کوئے

يَوْمٍ ○ وَمَا يَمُوتُ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

هره ورخ او غه چه مري په دے کنئے د قیامت تر ورخ پورے

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

او رحمت او لیبرے په سردار زمونیر محمد بانده په شمار

السَّحَابِ لِبَحَارِيَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

د روانو وریخو په مینخ د آسمان او د زمکے

وَمَا تَطْرُقُ مِنَ الْمِيَاهِ ○ وَصَلِّ عَلَى

او په شمار دهغه چه راوریبری د باران نه 'او رحمت او لیبرے په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيحِ الْمُسَخَّرَاتِ

سردار زمونیر محمد بانده په شمار د با دونو چه فرمان بردار دي

فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ○

په مشرقونو د زمکے کنئے او دهغه په مغربونو کنئے او

جَوْفِهَا وَقِبْلَتَيْهَا ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

هغه په خپته کنئے او دهغه په قبلے کنئے 'او رحمت او لیبرے زمونیر په

مُحَمَّدٍ عَدَدَ نَجُومِ السَّمَاءِ ○ وَصَلِّ

سردار محمد بانده په شمار د ستورو د آسمان او رحمت او لیبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي

زمونیر په سردار محمد بانده په شمار د هغه چه تا پیدا کړي دي په

بِحَارِكِ مِنَ الْحَيَاتَانِ وَالذَّوَابِّ وَالْمِيَاهِ

دریابونو خپلو کنئے د کبانو نه او د چار پایانو نه او داوبو نه

وَالرَّمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او د شگونه او سوا ددے نه 'او رحمت او لیبرے زمونیر په سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّبَاتِ وَالْحِطَّةِ ○ وَ

محمد بانده په شمار د شینکو او دکوت کانرو' او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ التَّمَلُّكِ

رحمت او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار د میرو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ

او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د اوبو

الْعَذْبَةِ

خوپرو. او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے

عَدَدَ الْمِيَاهِ الْمِلْحَةِ

پہ شمار د مالکینو اوبو. او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ

محمد باندے پہ شمار د نعمتونو سنا پہ تول مخلوق خپل او رحمت

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِقْمَتِكَ

اولیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د ناراضگی او د عذاب

وَعَذَابِكَ عَلَى مَنْ كَفَرَ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خپل پہ هغه چا باندے چه کفر نے کرے دے زمونیر پہ سردار محمد باندے

صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صلی الله علیه وسلم. او رحمت او لیبرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الدُّنْيَا

سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د همیشه والی د دنیا

وَالْآخِرَةِ

او د آخرت. او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے

عَدَدَ مَا دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي الْجَنَّةِ

پہ شمار د هغه چه تر خوبورے وی مخلوق په جنت کنے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د هغه

دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي النَّارِ

چه تر خوبورے وی مخلوق په دوزخ کنے او رحمت او لیبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ مَا تُجِبُّهُ

زمونیر پہ سردار محمد باندے په مقدار د هغه چه ته نے خوبورے

ذکر آل نبوت ۳۰۴ الحزب الثالث

وَتَرْضَاهُ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اوتہ پرے راضی کیجئے۔ اور رحمت اولیوں پر سردار زموں پر محمدؐ باندھے

عَلَى قَدْرِ مَا يُحِبُّكَ وَيَرْضَاكَ ○ وَ

بہ مقدار دہغہ چاہے محبت کوی تاسرہ او راضی ساتی تا او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبَدًا ○

رحمت او لیوں پر سردار زموں پر محمدؐ باندھے ابدالا بادہ پورے

وَأَنْزِلْهُ الْمُنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ ○

اونازل کرے ہفہ لہرہ بہ مقربہ رتبہ کنیے خیل خان سرہ او

أَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ○ وَالشَّفَاعَةَ

دیکرے ورلہ وسیلہ او فضیلت او شفاعت

وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ ○ وَأَبْعَثْهُ الْمَقَامَ

او درجہ او چہ او وے لیوں مقام

المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَنِي ○ إِنَّكَ لَا

محمودتہ دکوم چہ ورسرہ تا وعدہ کرے دہ بیشکہ تہ نہ کوئے خلاف

ذکر آل نبوت ۳۰۵ الحزب الثالث

تُخَلِّفُ الْمِبْعَادَ ○ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

دوعلمے۔ اے اللہ زہ تانہ سوال کوم

بِأَنَّكَ مَا لِكُنِّي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ ○ وَ

بیشکہ تہ خما مالک نے او خما سردار نے او خما مولانے او

ثِقَتِي ○ وَرَجَائِي ○ أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ الشَّهْرِ

خما تکیہ گاہ نے او خما امید نے زہ سوال کوم تانہ بہ حرمت دمیاشتہ

الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ ○ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

دعزت او ذہنار دعزت او د مشعرا لحرام (مزدلفہ)

وَقَبْرِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ أَنْ تَهَبَ

او بہ حرمت د قبر د نبی ستا علیہ السلام چہ را نصیب کرے

لِي مِنْ الْخَيْرِ مَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ ○ إِلَّا أَنْتَ

ماتہ د خیرنہ ہفہ چہ د ہفے علم نیشتہ مکر تانہ

وَتَصْرِفَ عَنِّي مِنَ السُّوءِ مَا لَا يَعْلَمُ

او واروں خمانہ ہفہ بدوالے چہ دہفے علم نیشتہ

عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ ۝ اللَّهُمَّ يَا مَنْ وَهَبَ

مکرتاتہ . اے اللہ ! اے ہفہ ذاتہ چہ نصیب دکرو

لِسَيِّدِنَا آدَمَ سَيِّدِنَا شَيْثَ ۝ وَلِسَيِّدِنَا

زمونیر سردار آدم تہ شیث ، او زمونیر سردار

إِبْرَاهِيمَ سَيِّدِنَا إِسْمَاعِيلَ وَسَيِّدِنَا إِسْحٰقَ

ابراہیم تہ دنصیب کرو حضرت اسماعیل او حضرت اسحاق

وَرَدَّ سَيِّدِنَا يُوسُفَ عَلَى سَيِّدِنَا يَعْقُوبَ

او واپس دکرو زمونیر سردار یوسف حضرت یعقوب تہ

وَيَا مَنْ كَشَفَ الْبَلَاءَ عَنْ سَيِّدِنَا

او اے ہفہ ذاتہ چہ لرے دکرو مصیبت د سردار زمونیر

أَيُّوبَ ۝ وَيَا مَنْ رَدَّ سَيِّدِنَا مُوسَى

ایوب او اے ہفہ ذاتہ چہ واپس دکرو زمونیر سردار موسیٰ

إِلَى أُمِّهِ وَيَا زَايِدَ سَيِّدِنَا الْخَضِرَ فِي

خیلے مورثہ او اے زیا تونکیہ د حضرت خضر تہ

عِلْمِهِ ۝ وَيَا مَنْ وَهَبَ لِسَيِّدِنَا دَاوُدَ

بہ علم دہفہ کننے او اے ہفہ ذاتہ چہ ورد کرو زمونیر سردار داؤد تہ

سَيِّدِنَا سَلِيمَانَ ۝ وَلِسَيِّدِنَا زَكَرِيَّا سَيِّدِنَا

زمونیر سردار سلیمان او زمونیر سردار زکریا تہ زمونیر سردار

يَحْيَىٰ ۝ وَلِسَيِّدِنَا مَرْيَمَ سَيِّدِنَا عِيسَىٰ

یحییٰ ، او زمونیر سردار بی بی مریم تہ زمونیر سردار عیسیٰ

وَيَا حَافِظَ ابْنَةِ سَيِّدِنَا شَعِيبَ أَسْأَلُكَ

او اے ساتندونکیہ دلور د حضرت شعیب ، زہ سوال کوم تانہ

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

چہ رحمت او لیرے زمونیر بہ سردار محمد باندرے او بہ

جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَيَا مَنْ

تولو نبیانو او رسولانو باندرے ، او اے ہفہ ذاتہ چہ

وَهَبَ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ورد کرو زمونیر سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہ

وَسَلَّمَ الشَّفَاعَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ

شفاعت او بختے ماتہ کنناہونہ خما او پت کرے عیونہ خما

أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتَسْتُرَ لِي عُيُوبِي

داچہ او بختے ماتہ کنناہونہ خما او پت کرے عیونہ خما

كُلِّهَا وَتُجِيبَ رَنِي مِنَ النَّارِ وَتُوجِبَ

تبول او پناہ رالہ را کرے ڈھورنہ او واجہہ کرے

لِي رِضْوَانِكَ وَأَمَانِكَ وَغُفْرَانِكَ وَ

مادپارہ رضامنڈی خپلہ او امان خپل او بختینہ خپلہ او

إِحْسَانِكَ وَتُمَتِّعْنِي فِي جَنَّتِكَ مَعَ

احسان خپل او نفع مندم کرے بہ جنت خپل کنے سرہ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

دہغہ خلقر چہ تا ورباندے انعام کرے دے دیغمبرانونہ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

او صدیقانونہ او شہیدانونہ او صالحانونہ

وَالصَّالِحِينَ

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى اللَّهُ

بیشکہ تہ بہ ہر شیز قدرت لرونکے نے . او رحمت داللہ دوی

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَا زَجَجْتَ

زہونیزہ سردار محمد بانڈے او بہ آل دہغہ ترخوبورے چہ راپورتہ کوی

الرِّيَّاحِ سَحَابًا رُكَّامًا وَذَاقَ كُلَّ ذِي

ہواگانے ورنحے گنڈے او شکی ہر صاحب

رُوحٍ حَمَامًا وَأَوْصَلَ لِسْلَامًا لِأَهْلِ

دروح مرگ لہرہ او او رسوے سلام ہغہ خلقوتہ چہ

السَّلَامِ فِي دَارِ السَّلَامِ تَحِيَّةً وَسَلَامًا

دسلام اہل دی بہ دار السلام کنے چہ ہغہ سلام دزونداو دسلامیتا دعوی


اللَّهُمَّ أَفِرِدْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَلَا

اے اللہ ماخقلہ کر ہغہ خہ دیارہ جاتازہ فیما کر دے یم ہغے دیارہ اومسحرومہ کرے

تَشْعَلْنِي بِمَا تَكَلَّفْتَنِي بِهِ وَلَا تَحْرِمْنِي

مشغول مہ کرے بہ ہغہ خہ کنے چہ تکفیل نی دہغہ مارہ بہ ہغہ سرہ اومسحرومہ کرے

مَشْغُولًا بِمَا تَكَلَّفْتَنِي بِهِ وَلَا تَحْرِمْنِي



وَأَنَا أَسْأَلُكَ وَلَا تُعَذِّبْنِي وَأَنَا

حال داچہ زہ سوال کوم لتانہ، او مالہ عذاب مہ راکومے حال داچہ

أَسْتَغْفِرُكَ ۝ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

زہ بخشنہ غوارم تانہ، درے خل داوانی، اے اللہ رحمت او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ۝

زمونیر پہ سردار محمد باندے اودھفوی پہ آل باندے او سلام

اللَّهُمَّ ارِنِي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ

یا اللہ زہ سوال کول لتانہ او متوجہ کیرم ستا طرفتہ

مُحِبِّبِكَ الْمُصْطَفَىٰ عِنْدَكَ يَا حَبِيبَنَا

پہ وسیلے دحبیب ستا چہ غورہ کرے شومے درے ستا پہ نزدایے حبیبہ زمونیر

يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ

اے سردارہ زمونیر محمد مونی و وسیلہ نیسو پتا سرہ پہ طرف

إِلَىٰ رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلَى الْعَظِيمِ

درب ستا پس شفاعت او کرے زمونیر دبارہ د عظیم مولیٰ پہ و باندے

يَا نِعْمَ الرَّسُولَ الظَّاهِرُ ۝ اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ

اے نیکلیہ پاکہ رسولہ، اے اللہ شفاعت قبول کرے دھغے زمونیر

فِينَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ ۝ ثَلَاثًا ۝ وَاجْعَلْنَا

دبارہ پہ طفیل دمرتے دھغے تاسرہ درے خل داوانی، او او گر خومے مونیہ

مِنْ خَيْرِ الْمَصْلُوبِينَ وَالْمَسْلُوبِينَ عَلَيْهِ ۝

دغورہ درود او سلام لیگونکو نہ پہ ہغہ باندے

وَمِنْ خَيْرِ الْمُقَرَّبِينَ مِنْهُ وَالْوَارِدِينَ

او د غورہ مقربینو نہ ہغہ سرہ او دورتلونکونہ

عَلَيْهِ وَمِنْ آخِيَارِ الْمُجِيبِينَ فِيهِ

پہ ہغہ باندے او دغورہ محبت کونکونہ ہغہ سرہ

وَالْمَحْبُوبِينَ لَدَيْهِ ۝ وَقَرِّحْنَا بِهِ

او د محبوبانوںہ پہ نزد دھغہ، او خوشالہ کرے مونیہ ہغہ سرہ

فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ ۝ وَاجْعَلْهُ لَنَا

پہ میدان د قیامت کنے، او او گر خومے ہغہ مونیہ دبارہ

دَلِيلًا إِلَى جَنَّةِ التَّعْجِيرِ بِكَامُؤْنَةٍ وَلَا

دليل دنعمتو نو جنت طرفته بغير ذمحت نه او بغير

مَشَقَّةٍ وَلَا مُنَاقَشَةَ الْحِسَابِ جَعَلَهُ مُقْبِلًا

دمشقت نه او بغير دستختي دحساب نه او مے گر خوش متوجه كيدونك

عَلَيْنَا ○ وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا ○

به مونر باندم. او مے گر خوش غصه كونك به مونر باندم

وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنا وَلِجَمِيعِ

او بخيشنه او كرمه مونر ته او زمونره مورپلارته او تولو

الْمُسْلِمِينَ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْمَيِّتِينَ وَ

مسلمانانوته كوم چه ژوندي دي په دوي كينه او كوم چه مړه دي او

أَخِرْ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

آخري دعا زمونره داده چه تول تعريفونه الله دپاره دي چه پروردگار دعالمدنه

أَبْتَدَأُ الرَّبِّعَ الرَّابِعَ

دخلورم ربع ابتداء

فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا

پس سوال كوم لتانه اے الله اے الله اے الله اے ژونديه. اے

قِيَوْمٍ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ

قائمه اے ذجلال او دعزت خاوندده نيشته هيخوك معبود

إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

سوا ذتانه ته باك مے بيشكه يمه زهه ذ

الظَّالِمِينَ ○ أَسْأَلُكَ بِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ

ظلم كونكونه. سوال كوم تانه په وسيله دهغه چاسره چه او چته كرمے مے

مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَبِهَائِكَ وَ

ده كرسی ستاستا دعظمت نه اوستا د جلال نه او ستا ذرترانه او

قُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ أَسْمَائِكَ

ستا دقدرت نه او ستا دغلبه نه او په حق دنومونو ستا

الْمَخْرُونَةَ الْمَكْنُونَةَ الْمُطَهَّرَةَ الَّتِي
چه خرا نه شوي دي بت دي پاک دي چه

لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ وَ
نه دي خسر په هغه باندې هېڅوک دمخلوق ستانه او

بِحَقِّ الْأَسْمَاءِ الَّتِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْبَيْلِ
په حق دهغه نوم ستا چه تا کېنودوپه شې باندې نوهغه

فَاطَمَ وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمَوَاتِ
تیاره شوه اوپه ورځ باندې نوهغه روښانه شوه اوپه آسمانونو باندې

فَاسْتَقَلَّتْ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ
نوهغه مضبوط شول او په زمکه باندې نوهغه قرار او نیوؤ.

وَعَلَى الْبِحَارِ فَانْفَجَرَتْ وَعَلَى الْعُيُونِ
او په دریا بونو باندې نو هغه جاري شول او په جینو باندې

فَنَبَعَتْ وَعَلَى السَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ
نو هغه راؤ خوتکېدې او په وریځو باندې نوهغه اووریدې

وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جِهَةِ
اوسوال کوم تانه په اوسیلې دهغه نومونوسره چه لیکلي شوي دي په تندي

سَيِّدِنَا جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ
د سردار زمونیر جبریل علیه السلام. او په هغه نومونو سره چه

الْمَكْتُوبَةِ فِي جِهَةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ
لیکلي شوي دي په تندي د سردار زمونیر اسرافیل

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ
عليه السلام او په تمامو فرشتو اوسوال

وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ
کوم تانه په وسیلې دهغه نومونو چه لیکلي شوي دي چا پیره دعرش نه

وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ
اوپه هغه نومونوسره چه لیکلي شوي دي چا پیره دکرسی نه. اوسوال

وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي
کوم تانه په وسیلې دهغه نوم سره چه لونه دے اوډیر لونه دے کوم چه

سَمَّيْتِ بِهِ نَفْسَكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ اسْمَائِكَ

تا اينه دے په خان خپل او سوال کوم تانه په وسيله دنو مونو ستا

كُلُّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ۝ وَ

ټولو کوم چه ماته معلوم دي او کوم چه معلوم نه دي او سوال کوم

أَسْأَلُكَ يَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

تانه په وسيله دهغه نومونو ستا چه ته رابلله نه په هغه سره سردار زمونږ

أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي

آدم عليه السلام او په هغه نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

چه ته رابلله نه په هغه سره سردار زمونږ نوح عليه السلام

وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

او په هغه نومونو سره چه ته رابلله نه په هغه سره سردار زمونږ

صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي

صالح عليه السلام او په هغه نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

چه ته رابلله نه په هغه سره سردار زمونږ يعقوب عليه السلام

وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوسُفُ

او په هغه نومونو سره چه ته رابلله نه په هغه سره سردار زمونږ يوسف

عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام او په هغه نومونو سره چه ته رابلله نه

بِهَا سَيِّدُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ

په هغه سره سردار زمونږ يوسف عليه السلام او

يَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُوسَى

په هغه نومونو سره چه ته رابلله نه په هغه سره سردار زمونږ موسى

عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام او په هغه نومونو سره چه ته رابلله نه

بِهَا سَيِّدُنَا هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ

په هغه سره سردار زمونږ هارون عليه السلام او



يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاشِعِيبُ

به هغه نومونوسره چه ته رابلله نه په هغه سره سردار زمونږ شعيب

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهَا سَيِّدُ نَا اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

په هغه سره سردار زمونږ ابراهيم عليه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا اِسْمَاعِيلُ

اوپه هغه نومونوسره چه رابلله نه ته په هغه سره زمونږه سردار اسماعيل

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهَا سَيِّدُ نَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره زمونږه سردار داؤد عليه السلام او

يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا سَلِيمَانَ

په هغه نومونوسره چه رابلله نه ته په هغه سره زمونږه سردار سليمان

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهَا سَيِّدُ نَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره زمونږه سردار زكريا عليه السلام او

يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا يَحْيَى

په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته په هغه سره سردار زمونږ يحيي

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهَا سَيِّدُ نَا يَسُوعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره زمونږه سردار يوشع عليه السلام او

يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا الْخَضِرُ

په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته په هغه سره سردار زمونږه خضر

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

يَهَاسِيْدُ نَا اِلْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ

په هغه سره زمونږ سردار الياس عليه السلام او

بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ يَهَاسِيْدُ نَا اِلْيَسَعُ

په هغه نومونو سره چه رابللے ئے ته په هغه سره زمونږه سردار ايسع

عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام او په هغه نومونو سره چه رابللے ئے ته

يَهَاسِيْدُ نَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝

په هغه سره زمونږ سردار ذوالکفل عليه السلام

وَ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ يَهَاسِيْدُ نَا

او په هغه نومونو سره چه رابللے ئے ته په هغه سره زمونږ سردار

عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي

عيسي عليه السلام او په هغه نومونو سره چه

دَعَاكَ يَهَاسِيْدُ نَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

را بللے ئے ته په هغه سره زمونږ سردار محمد صلي الله عليه

وَسَلَّمَ نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ وَحَبِيبُكَ

وسلم چه ستا نبي دے او ستا رسول دے او ستا حبيب دے

وَصَفِيُّكَ يَا مَنْ قَالَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ

اوستا غوره کرے شوع دے اے هغه ذاته چه وئیلے ئے دي او وينا دهغه

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَ كَا

حقه ده "او الله پيدا کرے بي تاسو او کوم شه چه تاسو کوي" او نه

يَصْدُرُ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ عِبِيدِهِ قَوْلٌ وَ

صادر يوي دهيجانه په بندگانو دهغه کنے نه شه قول او

لَا فَعْلٌ وَلَا حَرَكَةٌ وَلَا سُكُونٌ إِلَّا

نه شه فعل او نه حرکت او نه سکون مگر هغه دمخکيش

وَقَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ

نه وي په علم دهغه کنے او په قضا دهغه کنے او په قدر دهغه کنے

كَيْفَ يَكُونُ كَمَا أَلْهَمْتَنِي وَقَضَيْتَ

چه خرنک به وي خنکه چه تالهام وکره ماته او حکم داو کړو

لِي يَجْمَعِ هَذَا الْكِتَابَ وَيَسِّرْتَ عَلَيَّ

ما دباره به جمع كولو ددے كتاب او آسان ذكره راله

فِيهِ الطَّرِيقَ وَالْأَسْبَابَ وَنَفَيْتَ عَنِّي

به دے كنيے طريقه او اسباب او متاؤ ذكره شما

قَلْبِي فِي هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الشَّاكِّ

دزره نه به باره ددے نبی كريم كنيے شك

وَالْإِسْرَتِيَابَ وَغَلَبْتَ حُبَّهُ عِنْدِي عَلَى

او شبه. او غالب ذكره محبت دهغه شما به نزد به

حُبِّ جَمِيعِ الْأَقْرَبَاءِ وَالْأَحْبَاءِ أَسْأَلُكَ

محبت دتولو اقرباؤ او دوستانو' سوال كوم لسانه

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَنْ تَرزُقَنِي وَ

اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ چه را نصیب كرمے مانه او هر هغه كس ته چه محبت

كُلِّ مَنْ أَحَبَّهُ وَاتَّبَعَهُ شَفَاعَتَهُ وَ

ساتي حضرت سره او دهغوي پيروي كوي' شفاعت دهغوي او

مُرَافَقَتَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ مِنْ غَيْرِ مُنَاقَشَةٍ

ملكوتيا دهغوي د حساب به ورخ بغير ذ سختي نه

وَلَا عَذَابٍ وَلَا تَوْبِيخٍ وَلَا عِتَابٍ وَ

او بغير د عذاب نه او بغير ذ رتنے نه او بغير ذ زورنے نه او

أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتَسْتُرَ عَيْبِي يَا

داچه او بخنيے مانه كسنا هونه شما او پت كرمے عيبونه شما اے

وَهَابُ يَا غَفَّارُ ۝ وَأَنْ تُنْعِمَ عَلَيَّ بِالنَّظَرِ

دور كرمے خاوند اے بخنيونكيه. او داچه نعمت راباندے و كرمے دنظر كولو

إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فِي جُمْلَةِ الْأَحْبَابِ

خيل ذات مبارك ته سره ذ تولو دوستانو

يَوْمَ الْمَزِيدِ وَالثَّوَابِ وَأَنْ تَتَقَبَّلَ

به ورخ ذ زياتي انعام او د ثواب او داچه قبول كرمے

مِنِّي عَمَلِي وَأَنْ تَعْفُو عَمَّا أَحَاطَ بِعِلْمِكَ

خمانه عمل شما او داچه معاف كرمے هغه چه احاطه كرمے ده علم ستا

بِهِ مِنْ حَظِيَّتِي وَنَسِيَانِي وَرَلِي وَ

بہ ہفتے سرہ خما دخطاگانو او خما ڈھیرو او خما دلغزش او داچہ

أَنْ تُبَلِّغَنِي مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ وَالسَّلَامِ

اورسوے ما دھغوی د قبر زیارت لہ او سلام کولو لہ بہ ہغوی بانڈے

عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِيهِ غَايَةَ أَمَلِي بِمَنِّكَ

اودھغوی بہ دوارو ملگرو بانڈے انتہائی امیدخما دے سرہ د احسان

وَفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا رَوْوُ

ستاو دفضل ستا او دستخاوت ستا او دکرم ستا اے ڈیر مہربانہ اے

يَا رَحِيمُ يَا وَدِي ۝ وَأَنْ تُجَاوِزَ عَنِّي

ڈیررحم کونکیہ اے مددگار او داچہ بدلہ ور کرے ہغوی تہ خما د طرفہ

وَعَنْ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ مِنْ

اودھرہغہ چاد طرفہ چہ ایمان تے راورے دے بہ ہغوی بانڈے او پیروینے

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

کرے دہ دمسلماناتو سر و نہ او مسلماناتو بنخو نہ کوم چہ ژوندی دی دھغوی تہ

وَالْأَمْوَاتِ أَفْضَلَ وَأَتَمَّ وَأَعَمَّ مَا

او کوم چہ سرہ دی ڈیر غورہ او ڈیر مکمل او ڈیر عام ہغہ چہ

جَازَيْتَ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ يَا قَوِيُّ

جز اور کرے دہ تا بہ ہفتے سرہ یوکس تہ دمخلوق خیل نہ اے طاقتور

يَا عَزِيزُ يَا عَلِيُّ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَا

اے غالبہ اے او چتہ او سوال کوم لتانہ اے اللہ بہ حق دھغہ چا

أَقْسَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

چہ وسیلہ م نیولے دہ بہ ہفتے سرہ تاتہ چہ درود اولیکہ بہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد بانڈے او بہ آل د سردار زمونیر محمد بانڈے بہ شمار

مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ

دھغے چہ تا پیدا کری دی مخکنے ددے نہ چہ آسمان

مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ مَدْحِيَّةً وَالْجِبَالُ

جور شوے وو او زمکہ غور بدلے وہ او غرونہ

عُلُوِيَّةٌ وَالْعِيُونُ مُنْفَجِرَةٌ وَالْبَحَارُ

او چت شوي وو او چينے جاري شوع وے او دريا بولہ

مُسَخَّرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مِنْهُمْ رَمَّةٌ وَالشَّمْسُ

تابع د حکم وو او نھرونہ روان شوي وو اونہر

مُضِيَّةٌ وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالنَّجْمُ مُنِيرًا

رو بٹانہ شوع وو او سپورھي نوراني شوع وھ او ستوري خليلدي وو

وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ حَيْثُ تَكُونُ إِلَّا أَنْتَ

اونہ وھ معلومہ هيچانہ چہ خنکہ دي مکر تاتہ او داچہ رحمت او ليرے

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكَ

پہ هغوي باندي او دهغوي پہ آل باندي پہ شمار د کلام خيل او داچہ

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ

رحمت اوليرے پہ هغوي باندي او دهغوي پہ آل باندي پہ شمار د آيتونو

الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ

د قرآن او دھرفونو دهغه او داچہ رحمت او ليرے پہ هغوي باندي او

عَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَأَنْ

پہ آل دهغوي پہ شمار دهغه چاچہ درو دليري پہ هغوي باندي او داچہ رحمت

تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ

اوليرے پہ هغوي باندي او پہ آل دهغوي پہ شمار دهغه چاچہ درود نہ ليري

عَلَيْهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مِنْ

پہ هغوي باندي او داچہ رحمت اوليرے پہ هغوي باندي او پہ آل دهغوي پہ

أَرْضِكَ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

د کوالي دزمکے ستا او داچہ رحمت اوليرے پہ هغوي باندي او پہ آل دهغوي

عَدَدَ مَا جَرَىٰ بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمَّ الْكِتَابِ

پہ شمار دهغه چہ جاري شوع دے وړ باندي قلم پہ لوح محفوظ کښے

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَا

او داچہ رحمت او ليرے پہ هغوي باندي او پہ آل دهغوي پہ شمار دهغه

خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَوَاتِكَ ○ وَأَنْ

چہ تا پيدا کړي دي په اوو آسمانونو خپلو کښے او داچہ

تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةٌ مَّا أَنْتَ خَالِقُهُ

رحمت اولیوں پہ ہغوی باندے او پہ آل دھغوی پہ شمار دھغہ خیزو نو چہ

فِيهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ

تہ خالق دھغوی نے پہ دوی کنیے دقیامت ترورخ پورے پہ ہرہ ورخ کنیے

مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةٌ

زرخلے . او داچہ رحمت اولیوں پہ ہغوی باندے او پہ آل دھغوی پہ شمار

قَطْرِ الْمَطَرِ وَكُلِّ قَطْرَةٍ فَطَرْتُ مِنْ

د شاخکو دبارون او دھر ہغہ شاخکی چہ راوریدلے دے ستا

سَمَاوِكَ إِلَىٰ أَرْضِكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ

د آسمان نہ ستا زمکے طرفتہ د کومے ورخ نہ چہ تا پیدا کرے دہ

الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دنیا د قیامت تر ورخ پورے پہ ہر ورخ کنیے

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

زہ خلیے

الْحَزْبُ السَّابِعُ فِي يَوْمِ الْاِحْدَىٰ

اوم حزب د اتوار دورخے

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةٌ مِّنْ سَبْحِكَ

اوداچہ درود اولیوں پہ ہغوی باندے او دھغوی پہ آل باندے پہ شمار دھغہ

وَقَدْ سَكَتَ وَسَجَدَ لَكَ وَعَظَّمَكَ مِنْ

چاچہ ستا سبیح نے ویلے دے اوستا پا کوالے نے بیان کرے دے اوتانہ نے سجدہ

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

کرے دہ اوستا لونی نے بیان کرے دہ دھغے ورخ راسے چہ تانیا پیدا کرے دہ

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

دقیامت ترورخ پورے پہ ہرہ ورخ کنیے زرخلے . اوداچہ رحمت اولیوں پہ

وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةٌ كُلِّ سَنَةٍ خَلَقْتَهُمْ فِيهَا

ہغوی باندے او دھغوی پہ آل باندے پہ شمار دھر کال چہ تا پیدا کرے دی

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ہغوی پہ ہغے کنیے دھغہ ورخ نہ چہ تانیا پیدا کرے دہ دقیامت ترورخ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ

به هره ورخ کنی زرخلی. او داچه رحمت اولیر

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ عَدَدَ السَّمَاوَاتِ الْجَارِيَةِ

به هغوی باندی او دهغوی په آل باندی به شمار دروانی ورین

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ عَدَدَ الرِّيَّاحِ

او داچه رحمت اولیر به هغوی باندی به شمار دبا دونو

الدَّارِيَةِ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ

الوتونکو دکومے ورخ نه چه تا دنیا پیدا کرے ده تر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

ورخ قیامت پورے به هره ورخ کنی زرخلی.

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ عَدَدَ مَا

اوداچه رحمت اولیر به هغوی باندی او په آل دهغوی به شمار دهغه

هَبَّتِ الرِّيَّاحُ عَلَيْهِ وَحَرَّكَتْهُ مِنْ

غیزونو چه چلیبری هواکانی به هغی باندی.

الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَأوراقِ الثَّمَرِ

دشانگونو او داونو نه او د پا نونو او دمیونو نه

وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَىٰ قَرَارِ

او د گلونونو او په شمار دهغه چه تا پیدا کرې دی په مخ

أَرْضِكَ وَمَا بَيْنَ سَمَوَاتِكَ مِنْ يَوْمٍ

دزمکنی ستا او په مینخ د اسمانونو ستا کنی دکومے ورخ نه چه

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

تا پیدا کرے ده دنیا دقیامت تر ورخ پورے به هره

يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ

ورخ کنی زرخلی. او داچه رحمت اولیر به هغوی باندی او

عَلَىٰ إِلَيْهِ عَدَدَ مَا وَجَّحَ بِحَارِكَ مِنْ يَوْمٍ

په آل دهغوی به شمار دچو د دریابونو ستا دکومے ورخ نه

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

چه تا دنیا پیدا کرے ده د قیامت تر ورخ پورے به هره

يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ

ورآ كنبے زرآلے . او داآهه رآهآ او لیبے به هغوی باندمے او

عَلَى إِلِهِ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى وَكُلِّ حَجْرٍ

به آل دهغوی به شمار دشكو او كوآ كانبه او دهر كانبه

وَمَدْرٍ خَلَقْتَهُ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ

او دهرے لوتبه آهه آهیدآ كرمے ده دزمكے به مشرقونو كنبے او

مَغَارِ بِهَا سَهْلُهَا وَجِبَالُهَا وَأُودِيَّتُهَا

دهغه به مغربونو كنبے دهغه به نومه حصے كنبے او دهغه به عزونو كنبے او دهغه به

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

آورونو كنبید كومے ورآ نه آهه آانبه لیبه كرمے ده دقبعآ ترورآ بورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ

به هره ورآ كنبے زرآلے . او داآهه رآهآ او لیبے

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ

به هغوی باندمے او به آل دهغوی به شمار دشينو دزمكے

فِي قِبَلَتِهَا وَجُوفِهَا وَشَرْقِهَا وَغَرْبِهَا وَ

به دقلے دهغه كنبے او به آهته دهغه كنبے او دمشرق دهغه كنبے او

سَهْلُهَا وَجِبَالُهَا مِنْ شَجَرٍ وَشَمْرٍ وَ

دمغرب دهغه كنبے او به نومه دهغه كنبے او به غرونو دهغه كنبے او نونه

أُورَاقٍ وَزُرْعٍ وَجَمِيعِ مَا أَخْرَجْتَ وَمَا

او دمیونو او دبانو نه او دفصلونو نه او به شمار دتولوهغه آهه نونو آهه تر به روتبه

يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ

دې او هغه آهه رآو آهه به ددمے نه دشينو ددمے نه او دبر كتونو ددمے نه

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

د كومے ورآ نه آهه آهه لیبه كرمے ده دنبا د قبعآ تر ورآ بورے به

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

ههره ورآ كنبے زرآلے . او داآهه رآهآ او لیبے به هغوی باندمے

وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْإِنْسِ

او به آل دهغوی به شمار دهغه آهه آهه لیبه كرمے ده دنبا ددمونو

وَالْجِنَّ وَالشَّيَاطِينَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ

او دهریانو نه او دشیطانانو نه او په شمار دهغه څه چه ته پیدا کونکې نه

مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دهغوی نه د قیامت تر ورځ پورې په هره ورځ کښې

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى

زرځلې. او داچه رحمت او لیرې په هغوی باندې او په آل دهغوی

إِلَيْهِ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي أَسْفَلِ أَرْسِهِمْ وَ

په شمار د هرو یښته په بدنونو دهغوی کښې او په مخونو دهغوی

وَجُوهِهِمْ وَعَلَى رُءُوسِهِمْ مُنْذُ خَلَقْتَ

کښې او په سرونو دهغوی کښې د کوم وخت نه چه تا پیدا کړې ده

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دنیا د قیامت تر ورځ پورې په هره ورځ کښې

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى

زرځلې. او داچه رحمت او لیرې په هغوی باندې او په

إِلَيْهِ عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَالْفَاظِهِمْ وَالْحَاظِهِمْ

آل دهغوی په شمار دسوه گانو دهغوی او ذالفاظ دهغوی او ذکنلو دهغوی

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

د کومې ورځ نه چه تا دنیا پیدا کړې ده د قیامت تر ورځ پورې

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ

په هره ورځ کښې زرځلې. او داچه رحمت او لیرې

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَيْهِ عَدَدَ طَيْرَانِ الْجَنِّ وَ

په هغوی باندې او دهغوی په آل باندې په شمار دالو تلو د پیریانو او

خَفَقَانِ الْأَنْسِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

د حرکتونو د انسانانو د کومې ورځ نه چه تا دنیا

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

پیدا کړې ده د قیامت تر ورځ پورې په هره ورځ کښې

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى

زرځلې. او داچه رحمت او لیرې په هغوی باندې او په

إِلَهُ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلَىٰ أَنْفِكَ

آل دهغوی په شمار دهر خلورخه لرونکی خاروی چه تا پیدا کړي دي په

صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ

خپله زمکه که ورکوته وي که لونه وي د زمکه په مشرقونو کښه

وَمَغَارِبِهَا مِمَّا عِلْمٌ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمُهُ

اودهغه په مغربونو کښه کوم چه معلوم شوي دي اود کومو علم چه نيشته

إِلَّا أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ

چاته مکر تاته دغه د کوم وړخ نه چه تا دنيا پیدا کړه دهر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

وړخ د قیامت په هره وړخ کښه زرخله اوداچه رحمت اولیږه په

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلِهِ عَدَدَ مَنْ

دهغوی او په آل دهغوی په شمار دهغه چا چه درود نه لیکله دغه په

صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَعَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ

هغوی بانده او په شمار دهغه چاچه درود نه دغه لیکله په هغوی او

عَدَدَ مَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

په شمار دهغه چاچه درود به لیکلي په هغوی بانده د قیامت تر وړخ پورته په

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

هره وړخ کښه زرخله او داچه رحمت اولیږه په هغوی

وَعَلَىٰ إِلِهِ عَدَدَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَ

بانده او په آل دهغوی په شمار د ژوند او د مړو او

عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ جِبْتَانٍ وَطَيْرٍ

په شمار دهغه کبانو چه تا پیدا کړي دي اود مارغانو

وَنَمْلِ وَنَحْلِ وَحَشْرَاتٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ

اود میرو اود شاتو مچو اود زمینی چينجو اوداچه رحمت اولیږه په هغوی

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلِهِ فِي الْبَلِّ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ

بانده او په آل دهغوی په شپه کښه کله چه راخوره شي او په وړخ کښه

إِذَا تَجَلَّى ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلِهِ

کله چه روښانه شي اوداچه رحمت اولیږه په هغوی بانده او په آل دهغوی

مَنْ رُفِقَ بِهِ وَأَنْ تُورِدَ نَاحِوْضَهُ وَأَنْ

دهغوی د ملکرونه او داچه ورولے مونیره دهغوی حوض ته او داچه

تَسْقِينًا بِكَاسِهِ وَأَنْ تَتَفَعَّلَ بِمَحَبَّتِهِ وَ

او خکوم په مونیره دجام دهغوی نه او داچه نفع را کرے مونیره په محبت

أَنْ تَتُوبَ عَلَيْنَا وَأَنْ تُعَافِيَنَا مِنْ

دهغوی سره او داچه توبه قبول کرے زموږ او داچه عافیت را کرے مونیره ته

جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُؤْسِ وَالْفِتَنِ مَا ظَهَرَ

د ټول بلاکانو او آفتونو نه او د فتنو نه کوم په ظاهره شوے دي

مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَنْ تُرْحَمَنَا وَأَنْ

په هغه کښه او کوم په پټه دي او داچه رحم او کرے په مونیره او داچه

تَعْفُوَعْنَا وَتَغْفِرَ لَنَا وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ

معافي او کرے مونیره او بخښنه او کرے مونیره او ټولو مومنانو سره ته

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

او مومنانو ښځوته او مسلمانانو سروته او مسلمانانو ښځوته

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

کوم چه ژوندي دي په هغوی کښه او کوم چه مړه دي او ټول تعريفونه خاص

رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ

الله دپاره دي چه رب دمخلو قاتو دے. او هغه کافي دے مادپاره او ډیر ښه

الْوَكِيلُ وَالْأَحْوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

کوساز دے او نښته دے طاعت گناه نه دېچ کيلولو نښته دے قوت دنيکی کولومگر

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

په توفیق دالله سره چه ډیر لوچت او ډیر نور دے. اے الله رحمت اولیر په سردار زموږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا سَجَّتِ

محمداڼه او په آل سردار زموږ محمداڼه ترخوپورے چه اولزونه کوي

الْحَمَائِمُ وَحَمَتِ الْاَحْوَامِ وَسَرَّحَتِ الْبَهَائِمِ

کونتره او چکره وهي مار غان او خریدل کوي بخاروي

وَتَفَعَّتِ التَّمَائِمُ وَشُدَّتِ الْعَمَائِمُ وَ

او نفع ورکوي تعميرونه او تره کيږي پټکی او

نَمَتِ النَّوَائِمُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او تو کبیری تو کیلونکی خیزونه. اے اللہ رحمت اولیبرے په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أُبْلِجُ

محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے ترخوپورے چه رویتانه

الْأَصْبَاحُ وَهَبَّتِ الرِّيحُ وَدَبَّتِ الْأَشْيَاحُ

کبیری صبا او چلیبری هواگانے او خوزی بدنونه

وَتَعَاقَبَ الْغَدُّ وَالرَّوَّاحُ وَتَقَلَّدَتِ

او پرله پسه راخی سحر او ماینام او زوړندولے شی

الضَّفَاحُ وَاعْتَقَلَتِ الرِّمَاحُ وَصَحَّتِ

نورے او پریبودے کبیری نیزم او درست اوسی

الْأَجْسَادُ وَالْأَرْوَاحُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

بدنونه او روحونه. اے اللہ رحمت اولیبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمونیر په سردار محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ مَا دَارَتْ الْأَفْلاكُ وَدَجَّتِ

محمد باندمے ترخوپورے چه گردش کوی آسمانونه او تورے اوسی

الْأَحْلاكُ وَسَبَّحَتِ الْأَمْلاكُ ۝

تبارے شپه او تسبیح کوی ملائک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیبرے په سردار زمونیر محمد باندمے او په

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

آل د سردار زمونیر محمد باندمے څنگه چه تا رحمت لیبرے دے په

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر ابراهیم باندمے او برکت اولیبرے په سردار زمونیر محمد باندمے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے څنگه چه برکت لیبرے دے تا

عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ

په سردار زمونیر ابراهیم باندمے په عالموکنے بیشکه ته

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

دیرستایله شوه دیزرگئی والاتر. اے اللہ رحمت اولیورے په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّا

محمد بانده او په آل د سردار زمونیر محمد بانده تر خو پورے

طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَمَا صُلِّيَتْ اِلَّا خَمْسٌ

چه نمرختل کوی او ترخو پورے چه کولے شی پنخه مونخونه

وَمَا تَأْتِي بَرْقٌ وَتَدْفُقُ وَدُقٌّ وَمَا سَبَّحَ

اوترخو پورے چه خلیری برینسا او وریری باران اوترخو پورے چه تسبیح وائی

رَعْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رعد. اے اللہ رحمت او لیورے په سردار زمونیر محمد بانده

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْ السَّمٰوٰتِ

او په آل د سردار زمونیر محمد بانده په کوالی د آسمانونو

وَالْاَرْضِ وَمِنْ مَابَيْنَهُمَا وَمِنْ مَآسِئَتِ

او دزمکے او په کوالی د مابین ددونی او په کوالی دهغه خه چه

مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ۝ اَللّٰهُمَّ كَمَا قَامَ

ته نئے غوارے دده نه پس. اے اللہ چه خنکه هغه ولا پروو

بِاَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَاسْتَنْقَذَ الْخَلْقَ مِنْ

درسالت بار رسؤلوته او وه ویستل خلق د

الْجَهَالَةِ وَجَاهَدَ اَهْلَ الْكُفْرِ وَالضَّلٰلَةِ

جهالت نه او او جنکیدو کافرانو سره او گمراهانو سره

وَدَعَا اِلٰى تَوْحِيدِكَ وَقَاسَى الشَّدَايِدِ فِى

او بلنه نئے او کره ستا توحید طرفته او برداشت نئے کره سختیانے په

اِرْشَادِ عِبِيدِكَ فَاَعْطَاهِ اللّٰهُمَّ سُوْلَهُ

لارشدونه کنه ستابندگانونه نو ورکره ورله اے اللہ غوبنسته دهغوی

وَيَلِّغُهُ مَآمُوْلَهُ وَاِيَةَ الْوَسِيْلَةِ وَالْفَضِيْلَةَ

او وه رسوے مقصود خیل ته او ورکره ورله وسیله او فضیلت

وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَاَبْعَثَهُ الْمَقَامَ

او درجه او چته او پاسوے هغه مقام

المحمود الذي وعدته انك لا تخلف

محمود ته چه وعده دکرے ده ورسره بیشکه ته خلاف نه کوم

الوبعاد اللهم واجعلنا من

ذو عده. اے الله او او گرخوم مونیره د پیروی کونکو نه

المتبعين لشريعته المتصفين بحبته

د شریعت دهغوی متصف کیدونکی د محبت د هغوی هدایت

المهتدين بهدیه وسيرته وتوفنا

مونلونکی د هدایت دهغوی حاصلونکی د سیرت دهغوی او وفات راکرے راته

على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته

په طریقے دهغوی او مونیره محروم نه کرم د فضیلت د شفاعت دهغوی نه

واحشرنا في اتباع الغر المحجلين

اوز مونیره حشر اکرے دهغوی پیروی کونکو کسره چا تندی اولاس خپه به چه خلیبری

واشياعه السابقين واصحاب اليمين

او په ډله دهغوی کسره چه تړلونه بهمخکسره وی او چه عملنامه به ورکړه کیری په بنی لاس کسره

يا ارحم الراحمين اللهم صل

اے دهرچا نه زیات رحم کونکیه. اے الله رحمت او لیرے

على ملائكتك والمقربين وعلى

په خپلو ملائکو باندمے او په مقربو باندمے او په

انبيائك والمرسلين وعلى اهل

نبیانو خپلو او په رسولانو او په طاعت

طاعتك اجمعين واجعلنا بالصلاة

کونکو خپلو تړلو باندمے او مونیره او گرخوم په درود لیکلو باندمے

عليهم من المرحومين اللهم

په هغوی باندمے درحم کرم شوونه. اے الله

صل على سيدنا محمد المبعوث

رحمت او لیرے په سردار زمونیر محمد باندمے شوک چه لیکلے شوم دے

من تهامة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

دمکے نه او حکم کونکے دے دنیکو کارونو او داستقامت په دین باندمے

وَالشَّفِيعِ لِأَهْلِ الدُّنُوبِ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ

او شفاعت کونکے گنہگارو دپارہ د قیامت پہ میدان کنیے

اللَّهُمَّ أَبْلِغْ عَنَّا نَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا وَ

اے اللہ او رسوے زمونیر دطرفہ زمونیر نبی تہ او زمونیر شفیع تہ او

حَبِيبَنَا أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ

زمونیر محبوب تہ غورہ درود او سلام

وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الْكَرِيمِ

او پورتہ نے کہے بہ مقام محمود کنیے چہ دیر اعلیٰ دے

وَأَيُّهُ الْفَضِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ

او ورکے ورتہ فضیلت او وسیلہ او درجہ

الرَّفِيعَةَ الَّتِي وَعَدْتَهُ فِي الْمَوْعِدِ

اوجتہ دکومے چہ دور سرہ وعدہ کہے دہ پہ مینخ دخانے

الْعَظِيمِ ۝ وَصَلِّ لِلَّهِمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً

اوجت کنیے اور رحمت اولیبرے اے اللہ پہ ہغوی باندے داسے رحمت

دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالَى وَتَدْوُمُ ۝

چہ ہمیشہ وی پیوست وی بلہ ہسے او ہمیشہ وی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مَا لَاحَ

اے اللہ رحمت اولیبرے پہ ہغوی باندے او بہ آل دہغوی تر خوہورے

بَارِقٌ وَذَرَّ شَارِقٌ وَوَقَبَ غَاسِقٌ وَ

چہ خلیبری بجلی او راؤخی نمر او تیارہ کیری شہ او

انْهَمَ وَادِقٌ ۝ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

وربیری وریخہ او رحمت او لیبرے پہ ہغوی باندے او بہ

إِلَيْهِ مِنْ اللُّوْحِ وَالْفَضَاءِ وَمِثْلِ نُجُومِ

آل دہغوی پہ دکوالی دلوح اودفر احوالی دزمکے او بہ مثل دستورو

السَّمَاءِ وَعَدَدِ الْقَطْرِ وَالْحَصَىٰ وَصَلِّ عَلَيْهِ

دآسمان او بہ شمار دشاخکو اودکوت کاترو او رحمت ہرے اولیبرے

وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَاةً لَا تَعُدُّ وَلَا تُحْصَىٰ ۝

او بہ آل دہغوی داسے رحمت چہ نہ نے شمار وی او نہ پورہ والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ زينة عرشك ومبلغ

اے اللہ رحمت اولییرے پہ ہغوی باندے پہ برابری دوزن دعرش خیل او

رضاک ووداد کلماتک ومنتھ رحمتک

پہ انلازے درضاستاویہ برابر والی دسیاہی دکلماتوستاویہ انتھی درحمت ستا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ

اے اللہ رحمت اولییرے پہ ہغوی باندے اوپہ آل دھغوی اوپہ بییانو

وذریتہ وبارکک علیہ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ

دھغوی اوپہ اولاد دھغوی اوپرکت اولییرے پہ ہغوی باندے اوپہ آل دھغوی

أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ

اوپہ بییانو دھغوی اوپہ اولاد دھغوی خنکہ چہ درحمت لیگلے دے اوپرکت

عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

دلیرے دے پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے اوپہ آل د سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَجَارِهِ

ابراہیم باندے بیشکہ تہ دیرستایلی شومے دہزرگی والائے او جزا ورکے ورته

عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَن أُمَّتِهِ

زمونیر دطرفنہ ہغہ بہترہ جزا چہ تاور کرے دہ یونی تہ دخیل امت د طرفہ

وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ بِمِنْهَا جِ

او مونیرہ او کرخومے پہ ہدایت موندونکو کنیے پہ لارہ

شَرِيعَتِهِ وَاهْدِنَا بِهَدْيِهِ وَتَوْفَاتِنَا عَلَىٰ

دشریت دھغوی او مونیرہ او چلومے پہ سیرت دھغوی اووفات رالہ راکرے

مِلَّتِهِ وَاحْشُرْنَا يَوْمَ الْقَزَعِ الْأَكْبَرِ

پہ ملت دھغوی او مونیرہ را پاسومے پہ ورخ دھغہ لونے یرے

مِنَ الْأَمِينِينَ فِي زُمْرَتِهِ وَأَمْتِنَا عَلَىٰ

دامن والاونہ پہ دلہ دھغوی کنیے او مرک رالہ راکرے پہ

حُبِّهِ وَحُبِّ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

محبت دھغوی اوپہ محبت دھغوی او داصحابو دھغوی او دا اولاد دھغوی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ

اے اللہ رحمت اولییرے پہ سردار زمونیر محمد باندے شوک چہ غورہ دے

أَنْبِيَاكَ وَ أَكْرَمَ أَصْفِيَاكَ وَ إِمَامَ

بہ بنیانوستا کنیے او دیر غورہ دے بہ غورہ کہے شووستا کنیے او امام دے

أَوْلِيَاكَ وَ خَاتَمَ أَنْبِيَاكَ وَ حَبِيبِ

د دوستانو ستا او ختمونکے دے د پیغمبرانو ستا او محبوب

رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ شَهِيدِ الْمُرْسَلِينَ وَ شَفِيعِ

د رب العالمین دے او گواہ درسلانو دے او شفاعت کونکے

الْمُذْنِبِينَ وَ سَيِّدِ وُلْدِ أَدَمَ أَجْمَعِينَ

د گنہگارو دے او سردار دے د آدم دتول اولاد

الْمَرْفُوعِ الذِّكْرِ فِي الْمَلِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

جہ او چت کہے شومے دے ذکر دھغویٰ بہ ملائکو مقربو کنیے

الْبَشِيرِ النَّذِيرِ السَّرَاحِ الْمُنِيرِ الصَّادِقِ

جہ زیرے ور کونکے دے 'برونکے دے دیوہ دہ رویشانہ ریشتنے دے

الْأَمِينِ الْحَقِّ الْمُبِينِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

امانت دار دے حق ظاہرونکے دے دیر مہربان دیر رحم کونکے دے

الْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي

لا رہ بنودونکے دے طرف دنیغے لارے. ہفہ ہستی جہ

أَنْبِيَتَهُ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

تاورلہ ورکری دی اوہ آیتونہ د سورت فاتح او قرآن عظیم

نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ هَادِي الْأُمَّةِ أَوَّلِ مَنْ

نبی درحمت دے او رھما د اُمت دے اول ہفہ کس دے

تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ

جہ راؤ زیہ دقبرنہ او دا خلیوی بہ جنت تہ

وَالْمُؤَيَّدِ بِسَيِّدِنَا جَبْرِيلَ وَسَيِّدِنَا

اومدد کہے شومے دے زمونیر بہ سردار جبریل سرہ اوزمونیر بہ سردار

مِيكَائِيلَ الْمُبَشِّرِ بِهِ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

میکائیل سرہ زیرے نے ورکے شومے دے بہ تورات او بہ انجیل کنیے

الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى الْمُنتَخَبِ أَبِي

غورہ کہے شومے غورہ کہے شومے 'منتخب کہے شومے ابو

الْقَاسِمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

القاسم سردار زمونیر محمد خونے د عبد اللہ خونے

بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ ۝ اللَّهُمَّ

د عبد المطلب خونے د ہاشم اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَالْمُقَرَّبِينَ الَّذِينَ

رحمت او لیبے پہ خپلو ملائکو او مقربینو ہفہ خوگ

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وَ

چہ تسیح واتی شہ او ورخ سستیانہ کوی او داللہ نافرمانی

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

نہ کوی پہ ہفہ حکم کنیے چہ ورتہ نہ کرے وی او کوی ہفہ کار

مَا يُؤْمَرُونَ ۝ اللَّهُمَّ وَكَمَا اصْطَفَيْتَهُمْ

چہ دکوم ورتہ حکم شوے وی اے اللہ او خنکہ چہ دھوی منتخب کری

سَفَرَاءَ إِلَى رُسُلِكَ وَأَمْنَاءَ عَلَى وَحْيِكَ

دی پیغام رسونکی خپلو رسولا نو طرفتہ او امانتدار پہ وحی خپلے

وَشَهِدَاءَ عَلَى خَلْقِكَ وَخَرَقْتَ لَهُمْ

او گواہان پہ مخلوق خپل او خیرے کرے ددی ہوی دپارہ

كُنْفَ مَجِيكَ وَأَطَلَعْتَهُمْ عَلَى مَكُونِ

کنارے دپہر دو خپلو او خیر کرے ددی پہ پت

غَيْبِكَ وَاخْتَرْتَ مِنْهُمْ خَزَنَةَ لِحْنَتِكَ

غیب خپل او اختیار کری ددی پہ ہوی کنیے خیال ساتونکی دجنت خپل

وَحَمَلَةَ لِعَرْشِكَ وَجَعَلْتَهُمْ مِنْ

او او چترنکی دعرش خپل او گرخولی ددی د

أَكْثَرِ جُنُودِكَ وَقَضَيْتَهُمْ عَلَى الْوَرَى

اکثر ولینکر و خپلوانہ او فضیلت دورلہ ور کرے دے پہ مخلوق باندے

وَأَسَكَنْتَهُمُ السَّمَوَاتِ الْعُلَى وَزَيَّيْتَهُمْ

او استوگنہ دور کرے دہ پہ او چتو اسامانونو کنیے او پاک کری ددی

عَنِ الْمَعَاصِي وَالذَّنَائِبِ وَقَدَّسْتَهُمْ

دگناہونونہ او د بدوعا دتونونہ او پاک کری ددی

عَنِ التَّقَائِصِ وَالْأَقَاتِ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ

دنقانصونه او دآفتونونه. پس درود اوليرے په هغوی باندے

صَلَاةً دَائِمَةً تَزِيدُهُمْ بِهَا فَضْلًا

داسے درودچه همیشه وي چه زیات کرے په هغه سره بزركي دهغوی

وَتَجْعَلْنَا لِاسْتِغْفَارِهِمْ بِهَا أَهْلًا

او اوگړخوے مونږ دهغوی استغفار کولو د پاره په هغه سره اهل

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَ

ای الله او درود او لیرے په ټولو انبیاء خپلو او خپلو هغه رسولانو

رُسُلِكَ الَّذِينَ شَرَحَتْ صُدُورَهُمْ

باندے چه پرانستے دي تا سینے دهغوی او ورسره داینبے دے حکمت

وَأودَعَتْهُمْ حِكْمَتَكَ وَطَوَّقَتْهُمْ نُبُوتَكَ

خپل او په غاړه کښے دے ورته اچولے دے نبوت خپل او نازل کړي

وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ كُتُبَكَ وَهَدَيْتَهُمْ

ددې په هغوی باندے کتابونه خپل او هدایت دکرے دے دهغوی په ذریعه

خَلَقَكَ وَدَعَا إِلَى تَوْحِيدِكَ وَشَقُّوْا

مخلوق خپل ته او هغوی رابدل کړي دي ستاتو حید طرفته او شوق نرے

إِلَى وَعْدِكَ وَخَوْفُوا مِنْ وَعِيدِكَ وَ

ورکړے دے ستا وعده ته او برؤل نرے کړي دي ستا د عذاب نه او

أرْشَدُوا إِلَى سَبِيلِكَ وَقَامُوا بِحُجَّتِكَ

رهنماتي نرے کرے ده ستا لارے طرفته او او دریدلي دي ستا په حجت سره

وَدَلَّيْلِكَ وَسَلِّمَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِمْ تَسْلِيمًا

اوستا په دلیل سره او سلام او لیرے ای الله په هغوی باندے ډیر سلام

وَهَبْ لَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

اورا کرے مونږ ته په درود و نیلو سره هغوی باندے لو نرے اجر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ای الله رحمت او لیرے زموږ په سردار محمد باندے او په

أل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً

آل د سردار زموږ محمد باندے داسے رحمت چه همیشه وي

مَقْبُولَةٌ تُؤَدِّي بِهَا عَنَا حَقَّهُ الْعَظِيمُ

او مقبول وی چه اداشی په هغه سره زمونږ نه لونه حق دهغوی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

ای الله رحمت اولیې په سردار زمونږ محمد باندې چه صاف دے

الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ وَالْبَهْجَةِ وَالْكَامِلِ

دحسن او جمال او دخو شحالو او دکمال

وَالْبَهَاءِ وَالنُّورِ وَالْوِلْدَانِ وَالْحُورِ وَ

او د رنرا او دنور او د غلمانو او دحورو او

الْغُرَفِ وَالْقُصُورِ وَاللِّسَانِ الشُّكُورِ

د بالاخانو او دمحلونو او د ژبې شکر کندانے

وَالْقَلْبِ الْمَشْكُورِ وَالْعِلْمِ الْمَشْهُورِ

او د زړه شکر کونکي او د علم مشهور

وَالجَيْشِ لِمَنْصُورِ وَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ

او دلښکر فتحمنداو صاحب دخامنو او دلونږو

وَالْأَزْوَاجِ الطَّاهِرَاتِ وَالْعُلُوِّ عَلَى الرَّجَاءِ

اود بیبانو پاکیزه و او صاحب داوجوالي په درجو باندے

وَالزَّمَنِ وَالْمَقَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

او صاحب د زمزم او دمقام محمود اود مشعره حرام

وَأَجْتِنَابِ الْأَثَامِ وَتَرْبِيَةِ الْإِيْتَامِ وَالْحَجِّ

اود پرهیز کونکي دگناهونو نه اوتربیت کونکے دیتیمانو او صاحب د حج

وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَتَسْبِيحِ الرَّحْمَنِ وَصِيَامِ

او د تلاوت قرآن او د تسبیح د رحمن او دروزه

رَمَضَانَ وَاللِّوَاءِ الْمَعْقُودِ وَالْكَرَمِ

د رمضان او د جهنم غوټه لرونکے او دکرم

وَالجُودِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ صَاحِبِ الرَّغْبَةِ

اود سخا او د وفا په لوظونو باندے صاحب د رغبت

وَالتَّرْعِيبِ الْبَغْلَةِ وَالْجَبِّ وَالْحَوْضِ

اود ترغیب او صاحب د بغله (قجرے) او شریف او صاحب د حوض

وَالْقَضِيْبُ لِلنَّبِيِّ الْاَوْابِ لِلنَّاطِقِ بِالتَّوَابِ

او ذنورے اللہ تہ رجوع کونکے نبی و یونکے سرہ دحق و بنا

الْمَنْعُوتِ فِي لِكْتَابِ لِلنَّبِيِّ عَبْدِ اللّٰهِ النَّبِيِّ

تعریف کرے شوے پہ کتاب کینے نبی د اللہ بندہ نبی

كَتْرِ اللّٰهِ النَّبِيِّ حُجَّةِ اللّٰهِ النَّبِيِّ مَنْ

د اللہ خزانہ نبی د اللہ حجت دا سے نبی چہ خوگ نے اطاعت

اَطَاعَهُ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَاهُ

او کبری نوبقینا هغه د اللہ اطاعت او کر و او چاچہ دهغه نافرمانی او کره

فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ الْعَرَبِيُّ الْقُرَشِيُّ

نوبقینا هغه دا اللہ نافرمانی او کره نبی عربی دے قریشی دے

الرَّمْزِيُّ الْمَكِّيُّ التَّهَامِيُّ صَاحِبِ

زمزمی دے مکی دے تهامی دے خاوند

الْوَجْهِ الْجَوْبِيِّ وَالطَّرْفِ الْكَجْبِيلِ

د حائستہ مخ دے او صاحب ذ رانجو دارو سترگو دے

وَالْحَدِّ الْاَسِيلِ وَالْكُوْتْرِ وَالسَّلْسِيلِ

او داننگی هوار او د کوثر او د سلسیل دے

قَاهِرِ الْمُضَادِّينَ مُبِيدِ الْكُفْرِيِّنَ وَ

غالب پہ مخالفینو هلاکونکے دکافرانو او

قَاتِلِ الْمُشْرِكِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحْجَلِيْنَ

قاتل د مشرکانو قائد د خلیدونکو لاسونو خجو

اِلَى جَنَّاتِ النَّعِيْمِ وَجَوَارِ الْكَرِيْمِ

د جنت نعمتونو طرفتہ او پناہ د کریم

صَاحِبِ سَيِّدِ نَاجِرِ بَيْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

دوست د سردار زمونیر جبرئیل علیہ السلام

وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَشَفِيْعِ الْمَذْنُبِيْنَ

او رسول د رب العالمین او شفاعت کونکے د گنہگارانو

وَغَايَةِ الْغَمَامِ ۝ وَوَصْبَاحِ الظَّلَامِ

او غایت د رحمت دوریخو او دیوہ ده ذتیارو

وَقَمَرِ التَّمَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

اوسپوری ذہ خوار لسمے شے رحمت دالہ دوی یہ ہغوی بانہے او بہ آل دھغوی

المُصْطَفِينَ مِنْ أَطْهَرِ جِبَلَةٍ صَلَوَةٌ

شوگ چہ غورہ کرے شوی دی بہ پاک ترینہ دلہ کنہے داسے رحمت چہ

دَائِمَةً عَلَى الْأَبَدِ غَيْرِ مُضْمَلَةٍ صَلَّى

ہمیشہ وی بہ ہمیشہ والی بانہے نہ وی قطع کیونکہ رحمت دالہ دوی بہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَوَةٌ يَتَجَدَّدُ

ہغوی بانہے او بہ آل دھغوی داسے رحمت چہ تازہ کیہی بہ ہغے سرہ خوشالی

بِهَا حُبُّهُ وَيُشْرَفُ بِهَا فِي الْمَبْعَادِ

دھغوی او اوچت کرے شی بہ ہغے سرہ بہ قیامت کنہے راتل دھغوی او تشریف

بِعَثَّةٍ وَنُشُورُهُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

راؤزل دھغوی بہ حشر کنہے بس رحمت دالہ دوی بہ ہغوی بانہے او بہ آل دھغوی

آلِهِ الْأَجْمَعِ الطَّوَالِحِ صَلَوَةٌ تَجُودُ عَلَيْهِمْ

شوگ چہ خلیلونکی سوری دی داسے رحمت چہ او وریری بہ ہغوی بانہے

أَجُودَ الْغِيُوثِ الْهَوَامِعِ أَرْسَلَهُ مِنْ أَرْحِ

بہ بنہ وریلونکوبار اونو سرہ لیکلے نے دے ہغوی کرہ دافضل ترینو عربونہ بہ

الْعَرَبِ مِيزَانًا وَأَوْصَحَهَا بَيَانًا وَ

میزان کنہے او بہ زیات واضح بیان کونکہ کنہے او بہ زیات فصاحت والو کنہے

أَفْصَحَهَا لِسَانًا وَأَشْمَخَهَا إِيْمَانًا وَأَعْلَمَهَا

بہ ژبہ کنہے اوزیات اوچت دھغوی نہ بہ ایمان کنہے او زیات اوچت بہ ہغوی

مَقَامًا وَأَحْلَاهَا كَلَامًا وَأَوْفَاهَا ذِمَامًا

کنہے بہ مقام کنہے اوزیات خورہ ہغوی کنہے بہ کلام کنہے اوزیات کامل بہ

وَأَصْفَهَا رَغَامًا ۝ فَأَوْصَحَ الطَّرِيقَةَ

ہغوی کنہے بہ بزرگی کنہے او زیات خالص بہ ہغوی کنہے بہ نسب

وَنَصَحَ الْخَلِيقَةَ وَشَهَّرَ الْإِسْلَامَ وَكَسَّرَ

کنہے ہس واضح نے کرلہ لارہ اونصیحت نے او کر و خلقوتہ او مشہور نے

الْأَصْنََامَ وَأَظْهَرَ الْحُكْمَ وَحَظَرَ الْحَرَامَ

کر و اسلام اومات کرل بتان او ظاہر نے کرل احکام او بندو لے نے او کر و دحر امو نہ

وَعَمْرٍ بِالْإِنْعَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

او عام شولوپه نعمتونوسره. رحمت دالله دوي په هغوی باندے او په

إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَحْفَلٍ وَمَقَامٍ أَفْضَلُ

آل دهغوی په هر محفل کنے او مقام کنے غوره

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

درود او سلام. رحمت دالله دوي په هغوی باندے او په آل دهغوی

إِلَيْهِ عَوْدًا أَوْ بَدَأً ○ صَلَاةً تَكُونُ

په دے حال کنے چه بیایانے مگر چی اونوے کیری. داسے رحمت چه شی

ذَخِيرَةً وَوَرْدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

ذخیره او ورد. رحمت دالله دوي په هغوی باندے او په

إِلَيْهِ صَلَاةٌ تَأْتِي زَاكِيَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آل دهغوی داسے رحمت چه پوره پاک وی اورحمت دالله دوي په هغوی

وَعَلَى إِلَيْهِ صَلَاةٌ يَتَّبِعُهَا رُوحٌ وَرِيحَانٌ

باندے او په آل دهغوی داسے رحمت چه ورپسے وی روح او ریحان

وَبَعْقِبِهَا مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ ○ وَصَلَّى اللَّهُ

او ورپسے وی مغفرت او رضوان. او رحمت دالله دوي

عَلَى أَفْضَلِ مَنْ طَابَ مِنْهُ التَّجَارُؤُ

په هغوی غوره هستی چه پاک شوورسره نسب او

سَمَايَةِ الْفَخَارِ وَاسْتَنَارَتْ بِنُورِ جَبِينِهِ

اوچت شوورسره غوره خویونه او اوخلیدے په نور دتندی دهغوی سره

الْأَقْمَارُ ○ وَتَضَاءَتْ لَتِ عِنْدَ جُودِ عَيْبِهِ

سپهرمی. او کم حیثیته شوے دهغوی دنی لاس دسختا په وړاندے

الْغَمَائِمِ وَالْبِحَارِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

ورینخے او دریا بونه. سردار زمونږ او نبی زمونږ

مُحَمَّدٍ الَّذِي بَاهَرِ آيَاتِهِ أَضَاءَتْ

محمد باندے دچابه غالبو آیتونو سره چه روښانه شولے

الْأَنْجَادُ وَالْأَغْوَارُ وَيُعْجَزَاتِ آيَاتِهِ

او چتے زمکے او کنڈے او دهغوی دآیتونو معجز و سره

نَطَقَ الْكِتَابُ وَتَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ

کویانہ شولو کتاب او پرلہ ہسے راغلل خبرونہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

رحمت دالله دوی پہ ہغوی بانلدے او پہ آل دہغوی او پہ اصحابو دہغوی

الَّذِينَ هَاجَرُوا لِلنُّصْرَةِ وَنَصَرُوهُ

چاچہ ہجرت کرے دے دہغوی مرستے د پارہ او ملکر تیانے او کرہ

فِي هَجْرَتِهِ فَنِعْمَ الْمُهَاجِرُونَ وَنِعْمَ

پسہ ہجرت دہغوی کنسے نو ڈیر بنہ مہاجرین وو او ڈیر بنہ

الْأَنْصَارُ صَلَاةٌ تَامِيَةٌ دَائِمَةٌ مَا

انصار وو داسے رحمت چہ زیاتیلونکے وی ہمیشہ وی ترخو پورے چہ

سَجَعَتْ فِي أَيِّهَا الْأَطْيَارُ وَهَمَّعَتْ

چغفار کوی پہ خانکو کنسے مارغان او ترخو پورے چہ وریکی

يُوبِلُهَا الدِّيْمَةُ الْمِدْرَارُ ضَاعَفَ اللَّهُ

پہ خپل زور سرہ باران ڈیر وریدونکے دو چند دکری الله

عَلَيْهِ دَائِمَ صَلَوَاتِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ ہغوی بانلدے ہمیشہ رحمت خپل اے الله رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

زمونیر پہ سردار محمد بانلدے او دہغوی پہ آل بانلدے چہ پاک دی

الْكَرَامِ صَلَاةٌ مَوْصُولَةٌ دَائِمَةٌ

او عزتمند دی داسے رحمت چہ پیوست وی ہمیشہ

الَّتِي تَصَالِي بِدَاوَمِ ذِي الْجَلَالِ الْكَرَامِ

او خائے شوم وی پہ ہمیشہ والی د خاوند د جلال او داکرام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے الله رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر محمد بانلدے خوک چہ

هُوَ قُطْبُ الْجَلَالَةِ وَشَمْسُ لُبُّوَّةِ

مدار د بزرگی دے او نمر د نبوت

وَالرِّسَالَةِ وَالْهَادِي مِنَ الصَّلَاةِ

او درسالت دے اولارہ بنو دونکے دے دکمراہی نہ

وَالْمُنْقِذُ مِنَ الْجَهَالَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

او خلاصونکے دے د جہالت نہ، رحمت داللہ دوی پہ ہغوی باندے

وَسَلَّمَ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ لِإِتِّصَانِ التَّوَالِي

او سلام، داسے رحمت چہ ہمیشہ پیوست وی او متواتر وی

مُتَعَاقِبَةٍ يَتَعَاقِبُ أَيَّامَ وَاللَّيَالِي ۝

یوبل پسے وی پہ شان د تلوراتلو د ورخو او د شہو

الْحِزْبُ الثَّامِنُ فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ

اتم حزب د پیر د ورخے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

اے اللہ رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باننے چہ نبی دے

الزَّاهِدِ رَسُولِ لِمَلِكِ الصَّمَدِ الْوَاحِدِ

زاهد دے، رسول دے، بادشاہ دے، بے نیازہ دے واحد دے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ

رحمت د اللہ دوی پہ ہغوی باندے داسے رحمت پہ ہمیشہ وی

إِلَى مُنْتَهَى الْأَبَدِ بِلَا انْقِطَاعٍ وَلَا

انتہا زمانے پورے چہ منقطع نہ شی او نہ فناشی داسے

نَفَادٍ صَلَوَةٌ تُنْجِنَانِيَّاهَا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ

رحمت چہ نجات راکیرے مونیر تہ پہ ہغہ سرہ ذکر می ددوزخ نہ

وَيَسِّرُ الْيَهَادُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

او دوزخ دیترہ بدہ تکانہ دہ، اے اللہ رحمت او لیرے پہ

دلائل نبوت ۳۴۰

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى
سردار زمونير محمد باندي چه نبي دے امي دے او به
إِلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ لَا يُحْصَى لَهَا عَدَدٌ
آل دهغوی اوسلام هم داسے درود چه نه نے احاطه او کرے شي يو عدد
وَلَا يُعَدُّ لَهَا مَدَدٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اونه نے او شمارے شي شوک مدد. اے الله رحمت او لپیرے به
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُكْرَمُ بِهَا مَنَوَاهُ
سردار زمونير محمد باندي داسے رحمت چه عزتمندہ کرے به هغه سره
وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ
آرامگاه دهغوی او اورسومے به هغه سره دقيامت به ورخ دشفاعت نه
رِضَاهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
رضا دهغوی. اے الله رحمت او لپیرے به سردار زمونير
مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَصِيلِ السَّيِّدِ
محمد باندي چه نبي دے اصیل دے سردار دے

دلائل نبوت ۳۴۱

النَّبِيِّ الَّذِي جَاءَ بِالْوَحْيِ وَالنُّزِيلِ
بزرگ دے هغه ذات چه راغله دے به وحی او قرآن سره
وَأَوْضَحَ بَيَانَ التَّأْوِيلِ جَاءَهُ الْأَمِينُ
او واضحه نے بیان کرو تفسیر دهغه او راغله دے ورله امانتدار
سَيِّدِنَا جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْكَرَامَةِ
سردار زمونير جبریل عليه السلام به عزتمندی سره
وَالْتَفْضِيلِ وَأَسْرَى بِهِ الْمَلِكُ الْجَلِيلُ
او به فضيلت سره او سيل ورباندي او کرو بادشاه او چت
فِي اللَّيْلِ لِيَهَيِّمَ الطَّوِيلُ فَكَشَفَ لَهُ
به تورے شي او گندے کنیے پس کولاز نے کرے هغوی دپاره
عَنْ أَعْلَى الْمَلَكُوتِ وَأَسْرَاهُ سَنَاءُ
پردے د عالم غيب نه او وه بنووله ورته بلندي
الْجَبْرُوتِ وَنَظَرَ إِلَى قَدْرَةِ الْحَيِّ الدَّائِمِ
دجبروت او نظر نے او کرو قدرت دهميشه ژوندي دائمي خدانے ته

الْبَاقِي الَّذِي لَا يَمُوتُ ○ صَلَّى اللَّهُ

چه باقی دمی او نه مری. رحمت دالله دوی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةٌ مَّقْرُونَةٌ بِالْجَمَالِ

په هغوی باندی او سلام هم داسی رحمت چه پیوست وی په جمال سره

وَالْحُسْنِ وَالْكَمَالِ الْخَيْرِ وَالْإِفْضَالِ

او خسن سره او کمال سره او خیر او بزرگی سره

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ای الله رحمت او لیجی په سردار زمونیر محمد باندی او په آل

أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَقْطَارِ ○

د سردار زمونیر محمد باندی په شمار دشاخکو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَسْبَابِنَا

او رحمت او لیجی په سردار زمونیر او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ ○ وَصَلِّ

محمد باندی په شمار دپانرو د اونو او رحمت او لیجی

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

په سردار زمونیر محمد باندی او په آل د سردار زمونیر.

مُحَمَّدٍ عَدَدَ زَبَدِ الْبِحَارِ ○ وَصَلِّ عَلَى

محمد باندی په شمار دڅک د دریابونو او رحمت او لیجی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

په سردار زمونیر محمد باندی او په آل د سردار زمونیر محمد باندی

عَدَدَ الْأَنْهَارِ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

په شمار د نهرونو او رحمت او لیجی په سردار زمونیر محمد باندی

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رَمْلِ


او په آل د سردار زمونیر محمد باندی په شمار د شکو

الصَّحَارَى وَالْقَفَارِ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

د صحراگانو او میدانونو او رحمت او لیجی په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد باندی او په آل د سردار زمونیر محمد باندی په شمار



ثَقَلِ الْجِبَالُ وَالْأَحْجَارُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ذ دروندوالي د غرونو او کاترو. او رحمت او ليرے په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد باندے او په آل د سردار زمونږ محمد باندے په شمار

أَهْلِ لُجَنَّةٍ وَأَهْلِ النَّارِ وَصَلِّ عَلَى

د جنتيانو او دوزخيانو. او رحمت او ليرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

په سردار زمونږ محمد باندے او په آل د سردار زمونږ محمد باندے په شمار

الْأَبْرَارِ وَالْفَجَّارِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

د نيکانو او بدانو 'او رحمت او ليرے په سردار زمونږ محمد باندے او په آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْبَيْلُ

د سردار زمونږ محمد باندے په شمار دهغه چه مختلف شويدي په هغه سره

وَالنَّهَارُ وَاجْعَلِ اللَّهُ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ

شپے او ورځے 'او او مگرڅوے اے الله درود زمونږه په هغوی باندے

حِجَابًا مِنْ عَذَابِ النَّارِ سَبَّابًا لِذَاتِ

حجاب داور د عذاب نه او سبب د مباح والي

دَارِ الْقَرَارِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

د جنت بيشکه ته په هرچا غالب او ډير بخښونکے ئے.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

او رحمت دالله ډوي زمونږ په سردار محمد باندے او په

آلِ الطَّيِّبِينَ وَذُرِّيَّتِهِ الْمُبَارَكِينَ

آل د هغوی چه پاکان دي او په اولاد دهغوی چه برکتيان دي

وَصَحَابَتِهِ الْكُرَمَاءِ وَأَزْوَاجَهُ أَهْمًا


او په اصحابو دهغوي چه عزتمند دي او په بيبيانو دهغوی چه ميندے

الْمُؤْمِنِينَ صَلَاةً مَوْصُولَةً تَتَرَدَّدُ

دمومنانو دي 'داسے رحمت چه يوځانے شوے او پرله پسے وي

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د قيامت ترورځ پورے 'اے الله رحمت او ليرے په



سَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَزَيْنِ الْمُرْسَلِينَ الْأَخْيَارِ

سردار ذنیکانو او په زینت ذ مرسلانو غوره کره شو

وَ أَكْرَمَ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ الْبَيْلُ وَأَشْرَقَ

اوزیات عزتمنددهغه چانه چه تباره کره وی ورباندے شی او خلیدلے

عَلَيْهِ النَّهَارُ ۝ ثَلَاثًا ۝ أَللَّهُمَّ يَا ذَا

وی ورباندے ورخے (درے خل داوانی) اے الله اے خاوندے

الْمَنِّ الَّذِي لَا يُكَافِي امْتِنَانَهُ وَالطَّوْلِ

داحسان هغه ذاته چه بدله نشی کیلے داحسان ستاوداسے ورکرے والا

الَّذِي لَا يُجَازِي إِعْنَامَهُ وَاحْسَانَهُ سَأَلْتُكَ

چه عوض نشی کیلے د انعام ستا او داحسان ستا' مونیر سوال کوز

بِكَ وَلَا تَسْأَلُكَ بِأَحَدٍ غَيْرِكَ أَنْ تُطْفِقَ

تانه او سوال نه کوؤ دهیچانه تانه سوا چه گویانه کرے

الْإِسْنَتَ عِنْدَ السُّؤَالِ وَتَوْفِقْنَا لِصَلَاةِ

ژیے زمونیره په وخت د سوال دمنکر نکیر' او توفیق راله را کرے دنیکو

الْأَعْمَالِ وَتَجَعَلْنَا مِنَ الْأَمِينِ يَوْمَ

عملونو او او کرخوے مونیره دامن والاونه په ورخ

الرَّجْفِ وَالزَّلْزَلِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ

دزمکے لرزیدلو او د زلزلو' اے د عزت او لوی خاوندے

أَسْأَلُكَ يَا نُورَ التَّوْقِيلِ لَا زَمَانَ وَاللَّهُوِيَّ

زه سوال کوم لتانه اے نوره د نورونو مخکنے د زمانو او مودو'

أَنْتَ الْبَاقِي بِلَا زَوَالٍ الْغَفِيُّ بِلَا مِثَالٍ

ته باقی نے بغیر زواله عینی نے بے مشاله

الْقُدُّوسُ الطَّاهِرُ الْعَلِيُّ الْقَاهِرُ الَّذِي

دیر پاک' طاهر نے' او جت نے داسے غالب نے

لَا يُحِيطُ بِهِ مَكَانٌ وَلَا يَسْتَقِيلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ

چه احاطه برے نشی کولے هیخ مکان او نه شاملیری ورباندے زمانه

أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُنْهَا وَبِأَعْظَمِ

زه سوال کوم لتانه په وسیله دتولو بنکلونو مونو ستا او په او چتو

أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَأَشْرَفَهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً

نومونوستا، ستا طرفتہ، او زیات شرافت والا ستا بہ نزد بہ مرتبہ کنیے

وَأَجْزَلَهَا عِنْدَكَ تَوَابًا وَأَسْرَعَهَا مِنْكَ

او زیات او جت ستا بہ نزد بہ ثواب کنیے او زیات تیز ستا د طرفہ

إِجَابَةً وَبِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ

بہ قبولوالی کنیے، او بہ وسیلہ دنوم ستا چہ خزانہ شومے او پتہ دے

الْجَلِيلِ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ الْكَبِيرِ الْعَظِيمِ

جلیل القدر او دتولونہ او جت دے ذلویونہ لونی دے عظیم

الْأَعْظَمِ الَّذِي تُجِبُّهُ وَتَرْضَى عَنْ مَنْ

او اعظم دے کوم چہ ستا خوبش دے او راضی کیے دھغہ چانہ چہ تا

دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ

راہلی پہ دے سرہ او قبولے تہ ہغہ دبارہ دعا دھغہ زہ سوال کوم تانہ

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِلا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْحَنَّانُ

اے اللہ پہ دے سرہ چہ نیشتہ خوگ معبود تانہ سوا، تہ دیر مہربان نے

الْمَتَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ

دیر احسان کونکر نے تومے پیدا کونکر داسمانونو اوزمکے نے خاوند جلال

وَالْإِكْرَامِ عَلِيمُ الْغَيْبِ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ

او دعزت نے، خبردار نے بہ عیبو او بنکارہ باندرے لونی

الْمُتَعَالِ ○ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ

او او جت نے، او سوال کوم تانہ بہ وسیلہ دنوم ستا سرہ چہ عظیم

الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ

او اعظم دے ہغہ نوم چہ تہ راوبللے شے بہ ہغے سرہ نو قبول کومے

وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَأَسْأَلُكَ

او کله چہ سوال او کرے شی تانہ بہ ہغے سرہ نوور کرہ کومے، او سوال

بِاسْمِكَ الَّذِي يَدُلُّ لِعَظَمَتِهِ الْعُظْمَاءُ

کوم تانہ ستا بہ ہغہ نوم سرہ چہ سرتبتیوی بہ ورائدے د عظمت دھغے لونی

وَالْمُلُوكُ وَالسَّبَائِعُ وَالْهُوَامُ وَكُلُّ

لونی خلق او بادشاہان او درندگان او دزمکے کھر خندہ غیزونہ او تبول

شَيْءٌ خَلَقْتَهُ يَا اللَّهُ يَا رَبِّ اسْتَجِبْ دَعْوَتِي يَا

خیزو نہ چہ تا پید ا کری دی، اے اللہ، اے ربہ قبولہ کرے دعاخما اے

مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَبْرُوتُ يَا ذَا الْمُلْكِ

ہفہ ذاتہ چہ ہفہ دہارہ عزت او جبروت دے اے دملک

وَالْمَلَكُوتِ يَا مَنْ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

او حکومت خاوندہ اے ہفہ ذاتہ چہ ژوندے دے نہ بہ مری

سُبْحَانَكَ رَبِّ مَا اعْظَمَ شَانُكَ وَاَرْفَعُ

ہ پاک نے تہ اے ربہ غہ لوئے دے شان ستا او اوچت دے

مَكَانَكَ أَنْتَ رَبِّي يَا مُتَقَدِّسًا فِي جَبْرُوتِهِ

مکان ستا، تہ خما رب نے، اے پاکہ پہ صفاتو خلو کنبے

إِلَيْكَ أَرْغَبُ وَإِلَيْكَ أَرْهَبُ يَا عَظِيمُ

ستا طرفتہ رغبت کوم او ہم تانہ یرہ کوم اے عظیمہ

يَا كَبِيرُ يَا جَبَّارُ يَا قَادِرُ يَا قَوِيُّ تَبَارَكَتَ

اے لویہ اے زور آورہ او قادرہ اے طاقتورہ، تہ برکت والا نے

يَا عَظِيمُ تَعَالَيْتَ يَا عَلِيمُ سُبْحَانَكَ يَا

اے عظیمہ، تہ لوئے نے، اے دلونے علم خاوندہ، تہ پاک نے، اے

عَظِيمُ سُبْحَانَكَ يَا جَلِيلُ أَسْأَلُكَ

عظمت والا تہ پاک نے، اے لوئے ذاتہ سوال کوم تانہ

بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ التَّامِّ الْكَبِيرِ أَنْ لَا

ستاپہ عظیم نوم سرہ، کامل او لوئے، ذاتہ، داچہ مہ

تُسَلِّطَ عَلَيْنَا جَبَّارًا عَنِيدًا أَوْ لَا شَيْطَانًا

مسلط کوے پہ مونہ بانڈے شوک سرکش جھکے مارا و نہ شیطان

مَرِيدًا أَوْ لَا إِنْسَانًا حَسُودًا أَوْ لَا ضَعِيفًا

سرکش او نہ انسان بدخواہ او نہ شوک کمزورے

مَنْ خَلَقَكَ وَلَا شَدِيدًا أَوْ لَا بَاسًّا أَوْ

دمخلوق خیل نہ او نہ شوک سخت او نہ نیک او

لَا فَاجِرًا أَوْ لَا عَنِيدًا أَوْ لَا عَنِيدًا ○

نہ فاجر او نہ غلام او نہ عناد کونکے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ

اے اللہ زہ سوال کوم تانہ پس بیشکہ زہ گواہی کوم چہ

أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ

بہ تحقیق سرہ تہ اللہ نے چہ نیستہ دے معبود مکرہم تہ نے خانلہ

الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

یولے ہے حاجتہ ہفہ ذات چہ نہ نے شوک زیکولی دی اونہ چانہ زیکیلے دے

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَا هُوَ يَا مَنْ لَا

اونہ دہفہ دبارہ شوک سیال شتہ اے ہفہ ذاتہ چہ نیستہ دے شوک بل

هُوَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا أَرْزَلُ

مکرہم ہفہ دے اے ہفہ ذاتہ چاتانہ سواہی شوک معبود نیستہ اے ازلی

يَا أَبَدِي يَا فَائِمَةَ يَا دَائِمَةً يَا مَنْ

اے ابدی یا قائمہ اے دائمہ اے ہفہ ذاتہ چہ

هُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ يَا الْهَنَاءَ

مملدے ژوندے دے مرگ بہ ورلہ نہ راخی اے زمونیر معبودہ او

إِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهَ

دہرخیز معبودہ یو معبودہ نیستہ بل معبود سوا

إِلَّا أَنْتَ ۝ أَللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ

ذ ستانہ اے اللہ پیدا کونکیہ ذ اسمانونو

وَالْأَرْضِ عِلْمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ

او ذ زمکے پوہیدونکیہ بہ غیبو او بہ بشکارہ و دیر رحم کونکیہ

الرَّحِيمَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ الدِّيانَ الْحَنَّانَ

دیر مہربانہ اے ژوندیہ قائمہ بدلہ ور کونکیہ دیر مہربان

الْمَنَّانَ الْبَاعِثَ الْوَارِثَ ذَا الْجَلَالِ


دیر احسان کونکے مری ژوندی کونکے وارث دجلال او

وَالْإِكْرَامِ ۝ قُلُوبُ الْخَلَائِقِ بِبَيْدِكَ

دلویسے خاوند زرونہ ذ مخلوقاتو ستا پہ لاس کنے دی

تَوَاصِيهِمْ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَزْرَعُ الْخَيْرَ

تندی نے ستا طرفتہ دی پس تہ کہے نیکی



فِي قُلُوبِهِمْ وَتَمَحُّوا الشَّرَّ إِذَا اشْتَدَّتْ

دھغوی پہ زبونو کنیے او لرے کوے بدی کلہ چہ او غوارے

مِنْهُمْ ۝ فَاسْأَلْكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَمَحُّوا

ددوی نہ، نو سوال کوم لسانہ اے اللہ چہ محوہ کرے

مِنْ قَلْبِي كُلِّ شَيْءٍ تَكْرَهُهُ، وَأَنْ تَحْشُو

خما دذره نہ ہر ہغہ خیز چہ تہ نے بد گنہے او داچہ دک کرے

قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ وَمَعْرِفَتِكَ وَ

زہ خما دخیلے ویرے نہ او خیل معرفت نہ او

رَهْبَتِكَ وَالرَّغْبَةَ فِيمَا عِنْدَكَ وَالْأَمْنَ

اودخیل خوف نہ، اورغب رانصب کرے دھغہ خیزونوچہ تاسرہ دی

وَالْعَافِيَةَ وَأَعْطِفْ عَلَيْنَا بِالرَّحْمَةِ

اوامن او عافیت ہم، او مہربانی او کرے پہ مونیر بانلدے پہ رحمت سرہ

وَالْبَرَكَاتِ مِنْكَ وَالْهِمْنَا الصَّوَابَ

اوپہ برکت سرہ دخیل طرفہ اوزرہ کنیے راتہ واجمے صواب

وَالْحِكْمَةَ ۝ فَتَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ عِلْمَ

او حکمت پس غوارو لسانہ اے اللہ علم

الْحَافِيَيْنِ وَإِنَابَةَ الْمُخْبِتِينَ وَإِخْلَاصَ

ذویریدونکو او متوجہ کیدل دعا جزی کونکو او اخلاص

الْمُوقِنِينَ وَشُكْرَ الصَّابِرِينَ وَتُوبَةَ

دیقین کونکو او شکر د صبر کونکو او توبہ

الصَّادِقِينَ ۝ وَتَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِنُورِ

دصدیقانو، او سوال کوو لسانہ اے اللہ پہ وسیلے دنور

وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ

دذات ستا کوم چہ دکے کرے دی گوشے دعرش ستا

أَنْ تَزْرَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ حَتَّى

چہ او کرے خما پہ زہ کنیے خیل معرفت تردے پورے

أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ كَمَا يَتَّبِعُ أَنْ

چہ او پیژنم تالرہ پہ حق پیژندلو سرہ خنکہ چہ بنائیری

أَنْ تُعْرِفَ بِهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

چه او پیژندے ہے ته په هغه سره. او رحمت د الله دوي په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ

محمد باندې چه ختمونکې د نبیانو دې او امام د مرسلانو دې

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَأُحَدِّثُ

اوپه آل دهغوی او په اصحابو دهغوی او سلام پرې او لیرې دیر. او ټول

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ اللَّهُمَّ اغْفِرْ

تعریفونه خاص الله د پاره دي چه رب دعا مونو دې. اے الله او بخښه

لِمَوْلَانِي وَأَرْحَمَهُ وَاجْعَلْهُ مِنْ

مؤلف د دې کتاب او رحم پرې او کړې او وې مخخو د

الْمَحْشُورِينَ فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ ○ وَ

پاسيدونکو نه په زمرة د پيغمبرانو کښې او

الصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

په صدیقانو او شهيدانو او صالحانو کښې

بِفَضْلِكَ يَا رَحْمَنُ ○ وَاغْفِرِ اللَّهُمَّ لَنَا

په خپله مهرباني سره اے ډیر رحم کونکېه. او او بخښه اے الله مونږه

وَلَوْلَا الدِّينَا وَلَا سِتَارَتُنَا وَلَمْ شَأْنِ خَنَا وَ

او زمونږ مور پلار او زمونږه استاذان او زمونږه بزرگان او

بِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

ټول مومنان سړي او مومنانې ښځې او مسلمانان سړي

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

او مسلمانانې ښځې کوم چه ژوندي دي په دوی کښې او کوم چه مړه دي

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ○ وَ

په خپله رحمت سره اے دټولونه زیات رحم کونکېه. او دا

أَنْ تُتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

چه نظر درحمت او کړې په ده باندې بیشکه ته ډیر بخښونکې مهربان

اللَّهُمَّ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ○ ثُمَّ

ئې. یا الله دا دعا قبوله کړې زمونږ اے دټولو مخلوقاتو ربه. بیا د

تَقْرَأْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَرَّةً
او ويلے شي دا کلمات خوارلس خلے

وَهِيَ هَذِهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى بَدْرِ التَّمَامِ
او هغه دادی: اے اللہ رحمت او لیرے د خوار لسمے شیے سپوز میء باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الظَّلامِ ○ اللَّهُمَّ
اے اللہ رحمت او لیرے د تیارو په رنرا باندے... اے اللہ

صَلِّ عَلَى مِفْتَاحِ دَارِ السَّلَامِ ○ اللَّهُمَّ
رحمت او لیرے په کتھی دتولو خلقو باندے..... بیاد

صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ الْأَنَامِ ○ ثُمَّ
رحمت او لیرے په شفیع دتولو خلقو باندے... بیاد

تَقْرَأْ هَذِهِ الرَّبِّيَّاتُ الْمَنَسُوبَةُ لِلْمَوْلَفِ
دا شعرونه او لوستے شي کوم چه منسوب دي مولف د دے کتاب ته

يَا رَحْمَةَ اللَّهِ إِيَّيْ خَائِفٌ وَجِلٌ ○
اے رحمته د اللہ بیشکه زه پریدونکے لرزیدونکے یم

يَا نِعْمَةَ اللَّهِ إِيَّيْ مُفْلِسٌ عَانٌ ○
اے داللہ نعمته بیشکه زه مفلس او عاجزه یم

وَلَيْسَ لِي عَمَلٌ أَلْقَى الْعَلِيمَ بِهِ ○
او نیشته دے ماسره داسے عمل چه ملاؤشم اللہ سره په هغه سره

سِوَى مَحَبَّتِكَ الْعُظْمَى وَإِيمَانِي ○
سوا ستا د عظیم محبت نه او د ایمان خیل نه

فَكُنْ أَمَانِي مِنْ شَرِّ الْحَيَاةِ وَمِنْ ○
پس شه پناه خما د ژوند د شر نه او د

شَرِّ الْمَمَاتِ وَمِنْ إِحْرَاقِ جُثْمَانِي ○
مرگ د شر نه او د سوزیدلو د بدن خمانه

وَكَنْ غِنَايَ الَّذِي مَابَعْدَهُ فُلْسٌ ○
او شه ته غنی والے خما چه هغه نه پس محتاجی نه وی

وَكَنْ فُكَاكِي مِنْ أَغْلَالِ عَصِيَانِي ○
او شه خلاصے خما د طوقونو د گناه خمانه

تَحِيَّةُ الصَّهْدِ الْمَوْلَى وَرَحْمَتُهُ ○

تحفہ دے نیازہ مالک او رحمت دہفہ

مَا عَنَّتِ الْوُرُقُ فِي أَوْراقِ عَصَانِ ○

ترخو پورے چہ آوازونہ کوی گوگو شکتے دیناخونوپہ بانرو باندمے

عَلَيْكَ يَا عُرْوَتِي الْوُثْقَى وَيَا سِدْرِي ○

پتا باندمے اے خما لونے مضبوطے وسیلے او خما سندنہ

الْأَوْفَى وَمَنْ مَدَّحَهُ رُوحِي وَكَيْمَانِي ○

کاملہ او ہفہ کسہ چہ دہفہ تعریف خما تازگی او خما گل دے

ثُمَّ تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ لِلْمَوْلَى وَ

بیا داو لوستے شی سورۃ فاتحہ د پارہ دمؤلف او

هَذَا اللَّهُ عَائِدٌ يُقْرَأُ عَقِيْبَ خْتَمِ

دا دعا داو لوستے شی روستو دختم

دَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ

دلائل الخیرات نہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع کوم پہ نوم دالله سرہ چہ ڈیر بخینونکے مہربان دے

اللَّهُمَّ اشْرَحْ بِالصَّلَاةِ عَلَيهِ صُدُورَنَا ○

اے اللہ پرانزے پہ درود لیکلو سرہ پہ ہفوی باندمے سینے زمونیرہ

وَيَسِّرْ لَهَا أُمُورَنَا ○ وَفَرِّجْ بِهَا هُمُومَنَا ○

اواسان کرے پہ ہفے سرہ کارونہ زمونیرہ اولے کرے پہ ہفے سرہ پریشانی

وَاجْشِفْ بِهَا غُمُومَنَا ○ وَاعْفِرْ لَهَا

زمونیرہ اولے کرے پہ ہفے سرہ غمونہ زمونیرہ او او بخینے پہ ہفے سرہ

ذُنُوبَنَا ○ وَأَقْضِ بِهَا دِيُونَنَا ○ وَأَصْلِحْ

گناہونہ زمونیرہ او ادا کرے پہ ہفے سرہ قرضونہ زمونیرہ او درست کرے

بِهَا أَحْوَالَنَا ○ وَبَلِّغْ بِهَا أَمَالَئَنَا ○ وَ

پہ ہفے سرہ احوال زمونیرہ او اورسومے پہ ہفے سرہ امید ونہ زمونیرہ او

تَقْبَلْ بِهَا تَوْبَتَنَا ○ وَاعْسِلْ بِهَا

قبولہ کرے پہ ہفے سرہ توبہ زمونیرہ او اووینخے پہ ہفے سرہ

دَرُودٌ مُقَدَّسٌ

درود مقدس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

یَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِ اَقْوَالِ مُحَمَّدٍ وَّ اَفْعَالِ مُحَمَّدٍ

یا الہی! بحرمت اقوال محمد اور افعال محمد

وَّ اَحْوَالِ مُحَمَّدٍ وَّ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

اور احوال محمد اور اصحاب محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِ بَدَنِ مُحَمَّدٍ

علیہ وسلم یا الہی! بحرمت بدن محمد

وَبَطْنِ مُحَمَّدٍ وَبِرْكَتِ مُحَمَّدٍ وَبِیْعَةِ مُحَمَّدٍ وَّ

اور بطن محمد اور برکت محمد اور بیعت محمد اور

بِرَاقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ

براق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی!

بِحُرْمَتِ تَوْلَادِ مُحَمَّدٍ وَتَعْبُدِ مُحَمَّدٍ وَتَهْجَلِ

بحرمت تولد محمد اور تعبد محمد اور تہجیل

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت

ثَنَاءِ مُحَمَّدٍ وَّ ثَوَابِ مُحَمَّدٍ وَّ ثَنَاتِ مُحَمَّدٍ

ثناء محمد اور ثواب محمد اور ثنات محمد

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ جِوَالِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت جوال

مُحَمَّدٍ وَّ جِبَالِ مُحَمَّدٍ وَّ جِلِّ مُحَمَّدٍ وَّ وَجْهَةِ

محمد اور جبال محمد اور جبل محمد اور وجہ

مُحَمَّدٍ وَّ جَعْدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد اور جعد (کیسو) محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ حَسَنِ مُحَمَّدٍ وَّ حَسَنَاتِ

یا الہی! بحرمت حسن محمد اور حسنات

مُحَمَّدٍ وَّ حُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَّ حَالِ مُحَمَّدٍ وَّ حَلِيَّةِ

محمد اور حرمت محمد اور حال محمد اور حلیت

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت

خَلْقَةَ مُحَمَّدٍ وَخَلَقَ مُحَمَّدًا وَخُطِبَةَ مُحَمَّدٍ

خَلَقْتَ مُحَمَّدًا اور خلق محمد اور خطابت محمد

وَخَيْرَاتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي

اور خيرات محمد صلى الله عليه وسلم يا الهى!

بِحُرْمَةِ دِينِ مُحَمَّدٍ وَدِيَانَةِ مُحَمَّدٍ وَدَوْلَةِ

بحرمت دين محمد اور ديانت محمد اور دولت

مُحَمَّدٍ وَدَرَجَاتِ مُحَمَّدٍ وَدَعَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور درجات محمد اور دعاء محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي بِحُرْمَةِ ذَاتِ مُحَمَّدٍ

الله عليه وسلم يا الهى! بحرمت ذات محمد

وَذِكْرِ مُحَمَّدٍ وَذَوْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور ذكر محمد اور ذوق محمد صلى الله عليه

وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي بِحُرْمَةِ رُوحِ مُحَمَّدٍ وَرَأْسِ

وسلم يا الهى! بحرمت روح محمد اور راس

مُحَمَّدٍ وَرِزْقِ مُحَمَّدٍ وَرَفِيقِ مُحَمَّدٍ وَرِضَاءِ

محمد اور رزق محمد اور رفيق محمد اور رضاء

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي بِحُرْمَةِ

محمد صلى الله عليه وسلم يا الهى! بحرمت

زُهْدِ مُحَمَّدٍ وَزُهَادَةِ مُحَمَّدٍ وَزَارِعِي مُحَمَّدٍ وَ

زهده محمد اور زهد محمد اور زارعي محمد اور

زِينَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي

زينت محمد صلى الله عليه وسلم يا الهى!

بِحُرْمَةِ سَيَادَةِ مُحَمَّدٍ وَسَعَادَةِ مُحَمَّدٍ وَسُنَّةِ

بحرمت سيادت محمد اور سعادت محمد اور سنت

مُحَمَّدٍ وَسَبْرِ مُحَمَّدٍ وَسَلَامِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

محمد اور سبر محمد اور سلام محمد صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي بِحُرْمَةِ شَرَعِ مُحَمَّدٍ

عليه وسلم يا الهى! بحرمت شرع محمد

وَشَرَفِ مُحَمَّدٍ وَشَوْقِ مُحَمَّدٍ وَشَادِ مُحَمَّدٍ

اور شرف محمد اور شوق محمد اور شاد محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي بِحُرْمَةِ

صلى الله عليه وسلم يا الهى! بحرمت

صِدْقِ مُحَمَّدٍ وَصَوْمِ مُحَمَّدٍ وَصَلْوَةِ مُحَمَّدٍ

صدق محمد اور صوم محمد اور صلوة محمد

وَصَفَاءِ مُحَمَّدٍ وَصَبْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور صفاء محمد اور صبر محمد صلى الله عليه

وَسَلَامٍ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ ضِيَاءِ مُحَمَّدٍ وَضَمِيرِ

وسلم يا الهي! بحرمت ضياء محمد اور ضمير

مُحَمَّدٍ وَضَحَاءِ مُحَمَّدٍ وَضَعْفِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور ضحاه محمد اور ضعف محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ طَلْعَةِ

الله عليه وسلم يا الهي! بحرمت طلعت

مُحَمَّدٍ وَطَهَارَةِ مُحَمَّدٍ وَطَهْرِ مُحَمَّدٍ وَطَرِيقِ

محمد اور طهارة محمد اور طهر محمد اور طريق

مُحَمَّدٍ وَطَوَافِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد اور طواف محمد صلى الله عليه وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ ظَاهِرِ مُحَمَّدٍ وَظَهْرِ مُحَمَّدٍ وَ

يا الهي! بحرمت ظاهر محمد اور ظهر محمد اور

ظِلِّ مُحَمَّدٍ وَظُهُورِ مُحَمَّدٍ وَظَفْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

ظل محمد اور ظهور محمد اور ظفر محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ عَشْقِ

الله عليه وسلم يا الهي! بحرمت عشق

مُحَمَّدٍ وَعَرَافَاتِ مُحَمَّدٍ وَعِلْمِ مُحَمَّدٍ وَعُلُوِّ

محمد اور عرفات محمد اور علم محمد اور علو

مُحَمَّدٍ وَعَلِيمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد اور علیم محمد صلى الله عليه وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ غُرْبَتِ مُحَمَّدٍ وَغَارِ مُحَمَّدٍ

يا الهي! بحرمت غربت محمد اور غار محمد

وَعَرَّتِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرَتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور عرت محمد اور غيرت محمد صلى الله عليه

وَسَلَامٍ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ قَلْبِ مُحَمَّدٍ وَقَدْرِ

وسلم يا الهي! بحرمت قلب محمد اور قدر

مُحَمَّدٍ وَقِنَاعَةِ مُحَمَّدٍ وَقُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور قناع محمد اور قوت محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ فِخْرٍ

اللہ علیہ وسلم یا الہی! بجزمت فخر

مُحَمَّدٍ وَفَقْرٍ مُحَمَّدٍ وَفِرَاقٍ مُحَمَّدٍ وَفَضْلٍ

محمد اور فقر محمد اور فراق محمد اور فضل

مُحَمَّدٍ وَفَضِيلَةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

محمد اور فضیلت محمد صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ كَلَامِ مُحَمَّدٍ وَكَشْفِ

وسلم یا الہی! بجزمت کلام محمد اور کشف

مُحَمَّدٍ وَكُوشِشِ مُحَمَّدٍ وَكِتَابَتِ مُحَمَّدٍ

محمد اور کوشش محمد اور کتابت محمد

وَكَيْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور کینت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ لَيْلِ مُحَمَّدٍ وَلِقَاءِ مُحَمَّدٍ

یا الہی! بجزمت لیل محمد اور لقاء محمد

وَلِيَاقَةِ مُحَمَّدٍ وَمُجَاهِدَاتِهِ مُحَمَّدٍ وَسَاهِدَاتِهِ

اور لیاقت محمد اور مجاہدات محمد اور مشاہدات

مُحَمَّدٍ وَمُلَاحِظَةِ مُحَمَّدٍ وَمَسَاحَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور ملاحظہ محمد اور مساحت محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ نَارِ مُحَمَّدٍ

اللہ علیہ وسلم یا الہی! بجزمت ناز محمد

وَنَارِ مُحَمَّدٍ وَنَصِيرِ مُحَمَّدٍ وَتَقْيِيرِ مُحَمَّدٍ

اور ناز محمد اور نصیر محمد اور تقیر محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بجزمت

وَرُودِ مُحَمَّدٍ وَوَقَائِ مُحَمَّدٍ وَوُجُودِ مُحَمَّدٍ

ورد محمد اور وقایہ محمد اور وجود محمد

وَوُدِّيْعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور ودیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ هَمَّةِ مُحَمَّدٍ وَهَدَايَةِ مُحَمَّدٍ

یا الہی! بجزمت ہمت محمد اور ہدایت محمد

وَهَدْيِيَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور ہدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

من حاجی عجب خان نقشبندی سیفی حنفی قوم احمدزی در جرایم سنگین مقابل جهنمیان عارض هستم که در هوتل اورانوس بالای حلقه ذاکرین ولی اله جرم انتحار را انجام داده اند.

در مقابل این خوارج و داعشیان به تعداد 9 کتاب وجود دارد هر کسیکه قدرت و توان چاپ اش را داشته باشد باید به هر زبان ترجمه نماید و خدمت به اسلام نماید. سردار قوم خدمتگار قوم است باید از خارجی ها یاد بگیریم بخاطریکه هر کتاب را که پیدا میکنند به زبان خود ترجمه نمایند.

منکرین حق همراه اقرار از مسائل حق انکار میکند و آن اشخاص الکاذبو لا امتی است.

تجمع گروه ضد اسلامی به نام (سیان) در شهر (کریستیناسند) برگزار و به سوزاندن یک جلد قرآن مجید پرداختند. لارس تورسن سرکرده این گروه در این تجمع برخی از صفحات قرآن کریم را داخل سطل زباله انداخت و به دنبال این اقدام یکی از افراد شاهد این اهانت با شخص درگیر شد و مانع وی شد.

پولیس در حال سرکرده این گروه ضد اسلامی و افراد مهاجم را بازداشت کرد که این شخص پیشتر نیز به جامعه مسلمانان ناروی در اسلو اهانت کرده بود.

دشمنی خود با مسلمانان را به تمام جهان علنی نشان دادند و نام نهاد گستاخان خوارج و روافض به ذریعه ترجمه قرآن و پیروان شان امت محمد مصطفی (ص) را میخواهد به آتش جهنم بیاندازد و آن علایم دشمنی به مسلمانها مثل آفتاب روشن است.

و آن شخص منافقین آخر زمان که در کشور انجام دادند ظالمان به دهن شیرین و قلب تلخ میباشد و به زبان دعوی اسلام دارند اما در قلب از آنکار میکنند و حادثه فوق الذکر را گمراهان ، ملحدین ، زندیقین و مرتد دین انجام داده و باید به مناظره علنی مشایخ احناف حاضر شوند.

نمایندگان خوفیه و گستاخان خوفیه که این کار را انجام داده کفر خویش را بر ملا کنند.

نام نهاد مسلمانها کاذبان است الکاذب لا امتی

من حاجي عجب خان نقشبندي سيفي حنفي قوم احمدزي در جرايم سنگين در مقابل همان جهنميان عارض هستم كه در هوتل اورانوس بالاي حلقه ذاكرين ولي الله جرم انتحار را انجام داده اند.

در مقابل اين خوارج و داعشيان به تعداد نه كتاب وجود دارد هر كسيكه قدرت و توان چاپ اش را داشته باشد بايد به هر زبان ترجمه نمايد و خدمت به اسلام نمايد.

سردار قوم خدمتكار قوم است

بايد از خارجي ها ياد بگيريم بخاطريكه هر كتاب را كه پيدا ميكنند به زبان خود ترجمه مينمايند.

منكرين حق همراه اقرار از مسائل حق انكار ميكنند و آن اشخاص الكاذبو لا امتي است.

قرآن شريف را علني به آتش كشيدند دشمني علني به مسلمانها به چشم سر در فيسبوك ديده شد و دشمني خود با مسلمان را به تمام جهان علني نشان دادند و نام نهاد گستاخان خوارج و روفض به ذريعه ترجمه قرآن و پيروان شان امت محمد مصطفي (ص) را ميخواهد كه به آتش جهنم بي اندازند و آن علايم دشمني به مسلمانها به مثل آفتاب و مهتاب روشن است.

و آن اشخاص منافقين آخر زمان كه در كشور انجام دادند ظالمان به دهن شيرين و قلب تلخ ميباشد و به زبان دعوي اسلام دارند اما در قلب از آن انكار ميكنند و حادثه فوق الذكر را گمراهان ، ملحدين ، زنديقين و مرتد دين انجام داده و بايد به مناظره علني مشايخ احناف حاضر شوند.

نمايندگان خوفييه و گستاخان خوفييه كه اين كار را انجام داده كفر خويش را بر ملا كنند.

نام نهاد مسلمانها كاذبان است الكاذب لا امتي

يَا اَللّٰهُمَّ يَا رُبِّي مُحَمَّدٌ وَيَكُنِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى

يا الهي! ياري محمد اور يگانگي محمد صلوات

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ

الله عليه وسلم نهيں سے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ

سوا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و

اَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ دَمًا هُوَ الْمَكْتُوبُ فِي

اصحابہ وسلم بعد اس تعداد کے مطابق جو

لَوْحٍ وَالْقَلَمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ وَ

لوح و قلم میں لکھی ہوئی ہے ہر دن اور رات میں، ہر ساعت میں

نَقْسٍ وَ الْمَحِيَّةِ اَلْفِ مِائَةِ اَلْفِ مَرَّةٍ اِلَى يَوْمِ

اور سانس میں دس کروڑ مرتبہ یوم علم یعنی قیامت

الْعِلْمِ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

سہم آگاہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ تو خوف طاری ہوگا اور نہ ہی

هَمٌّ يَجْزُونَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

وہ غم زدہ ہوں گے تیری رحمت کیساتھ لے سب زیادہ رحم کرنے والے

الْقَائِمَةِ اَي مُحَمَّدٍ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاللَّجَّةَ
 جو قائم ہونیوالی ہے محمد کو وسیلہ دے اور بزرگی اور درجہ
 الرَّفِيْعَةَ وَاَبْعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ
 بلند اور یعنی ان کو مقام محمود میں پہنچا دو جس کا تو نے ان سے وعدہ
 وَاَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ
 کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب کر بیشک تیرا وعدہ
 السَّبْعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط مَسَارِ
 خلاف نہیں ہوتا اپنی رحمت سے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے
 سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَيُحْمَدُكَ وَتُبَارَكَ اسْمُكَ وَ
 اے خدا میرا دل تیری باری اور تعریف بیان کرتا ہے اور مبارک ہے تیرا نام اور
 تَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ
 بلند ہے تیری شان اور بجز تیرے کوئی معبود نہیں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی
 مِنْ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
 شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم
 الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ
 والا مہربان ہے تعریف اور کمال کی کل بائیں اللہ کیلئے خاص ہیں جو جہاں کا پالنے والا ہے

الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ط اِيَّاكَ نَعْبُدُ
 نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے مالک ہے قیامت کے دن کا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اللہ
 اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ط اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
 تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو راہ راست کی ہدایت فرما یعنی
 صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
 ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے احسان کیا ہے اور نہ تباہی ان لوگوں
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ط اٰمِيْنَ ط قُلْ هُوَ اللّٰهُ
 کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا اور ان کی راہ جو گمراہ ہوئے ہماری یہ دعا قبول کر کہ سے اے خدائے
 اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْهُ وَاَلَمْ يُولَدْ
 اللہ ایک ہے اللہ لے نیاز سے نہیں جنانا اس نے اور نہ جنانا گیا ہے اور
 لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ط يَا اَوْ كُنِيْ يَٰ اللّٰهُ الْكَبِيْرَ كَرُوْبِعِ
 نہیں ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا اللہ بہت بڑا ہے
 اَوْ تَمِيْنٌ نَّفْعٌ سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ط پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھا
 پر پڑھے۔ پاک ہے میرا رب عظمت والا اللہ بہت بڑا ہے
 اَوْ رُطِّبِ سَمِعِ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَكَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
 جو کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے اے پروردگار تعریف تیرے لیے ہے



پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدوں میں جائے سبحان ربی الاعلیٰ پھر
اللہ اکبر کہہ کر سجدوں سے پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ بھی اس طرح
اللہ اکبر کہہ کر سجدوں سے پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری طرح دوسری رکعت
اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے
تَشْتَدُّ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
سب عبادتیں جو زبان اور بدن سے اور ہر عمدہ کام جو ادا ہو سکیں اللہ ہی کیلئے
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
پس سلام ہو اور آپ کے اسے نبیؐ اور رحمت اللہ کی
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ
اور برکتیں اس کی سلامتی ہو اور ہمارے اور اللہ کے نیک
الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
بِسُؤْلِ بَرٍ ہیں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی محبوب بجز اللہ کے اور گواہی
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ شَرِيفٌ پڑھ کر نماز پوری کرے
دیتا ہوں کہ محمدؐ بیشک خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
اگر نماز میں یا چار رکعت کی ہو تو پھر اللہ اکبر کہہ کر
کہہ کر کھڑا ہو جائے اور باقی نماز پوری کرے
اللہ ہی تو رحمت کر محمدؐ پر

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ
اور محمدؐ کی اولاد پر جس طرح تو نے رحمت نازل کی ابراہیمؑ پر اور
عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ
ابراہیمؑ کی آل پر بیشک تو تعریف والا بزرگ ہے الہی
بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
تو برکت بھیج محمدؐ پر اور محمدؐ کی اولاد پر جس طرح تو نے
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
برکت نازل کی ابراہیمؑ پر اور ابراہیمؑ کی آل پر بیشک تو تعریف والا
مَّجِيدٌ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ
سے بزرگی والا ہے لے میرے پروردگار کرے مجھے نماز درست رکھنے والا اور میری
ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي
اولاد کو بھی اے رب ہمارے میری دعا قبول فرما اے رب ہمارے بخش دے
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور تمام مؤمنین کو جس دن حساب قائم ہو
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں نیکیاں اور آخرت میں نیکیاں



وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط دونوں طرف منہ السلام علیکم
اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے سلامتی ہو تم پر
وَرَحْمَةُ اللَّهِ ط سلامتی ہو اللہ کی اور رحمت ہو اللہ کی
دُعَا اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالْيَكِ
النہی تو سلامتی والا ہے اور جو سلامتی ہے تجھ ہی سے ہے اور تیری
يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيْثُ بَرَّابْنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخَلْنَا ط
طرف سلامتی رجوع ہوتی ہے اسے خدا ہم کو سلامتی اور امن کے ساتھ زندہ دکھ اور داخل کریم
دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ سَاءَ بِنَا وَتَعَالَيْتَ يَا
کو سنت میں برکت والا ہے تو اسے رب ہمارے اور تیرا مرتبہ بلند ہے اسے
ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط دعا قوت اللہمَّ إِنَّا
جلال و بزرگی والے الہی ہم مدد
نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ
چاہتے ہیں تجھ سے اور معافی مانگتے ہیں تجھ سے اور ایمان لاتے ہیں تجھ پر اور تھوڑا سا
عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ
رکھتے ہیں تجھ پر اور تعریف کرتے ہیں تیری اچھی اور شکر کرتے ہیں تم پر اور ناشکری نہیں کرتے

وَنَخْلَعُ وَنَتْرِكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِنَّا
ہم تیری اور ہم ان سے الگ اور علیحدہ رہتے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں تیری الہی تیرے ہی لئے
تَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَالْيَكِ تَسْعَى ط
عبادت ہے اور تیرے ہی لئے ہماری نماز اور سجدہ ہے اور تیری ہی طرف ہماری دوسرے
وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ
اور ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور ڈرتے ہیں تیرے عذاب
إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ ط
بیشک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے
دُعَا سَجْدَةٍ تِلَاوَتِ سَجْدَةٍ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ
سجدہ تلاوت میں یہ دعائیں بار پڑھے میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ہی کیلئے جس نے اسے پیدا
وَصُورَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَ
کیا اور اس کی صورت بنائی اور کھولے اس کے کان اور آنکھیں اپنی خاص حفاظت اور
قُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ○
امداد کے ساتھ برکت والا ہے اللہ بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے

فون ۵۳۸۳۹
۳۳۳۳۱۸ پاکستان
ط ناشدین
قرآن کمپنی لمیٹڈ ۳۸- اردو بازار لاہور پاکستان



دُرُودِ كِبْرِيَّتِ أَحْمَرَ

دُرُودِ كِبْرِيَّتِ أَحْمَرَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم کرنے والے ہیں

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدًا وَأَنْحٰی

اے اللہ نازل کیجئے اپنی رحمتوں میں سے بہترین رحمت باعتبار شمار کے اور

بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَأَزْكَى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَمَدَدًا

اپنی سب سے زیادہ تریختوں کو باعتبار دوام کے اور اپنے مسلمانوں میں پاکیزہ تر کو باعتبار فضل

عَلَى أَشْرَفِ الْحَقَائِقِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَمَعْدِنِ

اور معدن کے اوپر بزرگ ترین حقیقتوں انسانیت کے اور کان ایمان

الدَّقَائِقِ الْإِيمَانِيَّةِ وَطُورِ التَّجَلِّيَّاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ

والی باریکیوں کے اور اوپر طور (نام پہاڑ کا) احسانی تجلیات کے

وَمَهْبِطِ الْأَسْرَارِ الرَّحْمٰنِيَّةِ وَوَاسِطَةِ عَقْدِ

اور جائے نزول خداوندی بھیدوں کے اور پیوند دہنے والے گرہ

التَّبْيِيْنِ وَمَقْدَمَةِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ

پیغمبروں کے اور ہراول لشکر پیغمبروں کے اور

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ

ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل، آپ کے اصحاب اور

وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ

مطہرات، اولاد اور اہل بیت پر اور تیرے تمام اطاعت شعاروں

أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ

پر ہو جو آسمانوں اور زمینوں پر رہتے ہیں اسے تم کرنے

بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ ط وَيَا كَرَمَ

والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور لے کر کرنے والوں

الْأَكْرَمِينَ ط صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے اپنی رحمت سے (میری یہ التجا قبول فرما) حق تعالیٰ ہمارے

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ

آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ

تَسْلِيمًا دَائِمًا أَبَدًا كَثِيرًا كَثِيرًا ط

رحمت و سلامتی نازل فرمائے بہت زیادہ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور ہر قسم کی حمد و ثنا حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے

أَفْضَلِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ حَامِلِ لُؤَاءِ
اور بہترین جملہ مخلوقات اٹھانے والے جھنڈے بزرگی
الْعِزِّ الْأَعْلَى وَمَلِكِ أَرْزَمَةِ الشَّرَفِ الْأَسْنَى
بڑی کے اور مالک مہاروں بزرگی روشن تر کے
شَاهِدِ أَسْرَارِ الْأَزَلِ وَمُشَاهِدِ الْأَنْوَارِ
واقف بھیدوں ازل کے اور دیکھنے والے انوار کے جو
السَّابِقِ الْأَوَّلِ وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقَدَمِ
سابق اور پہلے ہیں اور بیان کرنے والے زبان ہمیشگی کے اور
مَنْبِجِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمِ وَمَظْهَرِ سِرِّ
چشمہ علم اور بردباری اور حکمتوں کے اور جائے ظہور بھید
الْجُودِ الْجَزْنِيِّ وَالْكَلْبِيِّ وَانْسَانِ عَيْنِ الْوَجُودِ
بخشش جزئی اور کلی کے اور پہلی آنکھ ہستی علوی
الْعُلُوبِيِّ وَالسُّفْلِيِّ وَرُوحِ جَسَدِ الْكُونِيِّ
اور سفلی کے اور جان جسم دونوں جہان کے اور
عَيْنِ حَيَاتِ الدَّاسِيَيْنِ الْمُنْتَخَلِقِ بِأَعْلَى
اصل زندگی دنیا اور آخرت کے توگیر ساتھ برترین

رُتْبَةِ الْعِبَادِيَّةِ الْمَتْحَقِّقِ بِأَسْرَارِ الرَّبُوبِيَّةِ
رتبہ بندگی کے ثابت آراستہ ساتھ بھیدوں ربوبیت کے
صَاحِبِ الْمَقَامَاتِ الْأَصْطِفَائِيَّةِ وَالذِّكْرَامَاتِ
صاحب مقامات برکزدگی کے اور کرامات
الْإِرْتِنَابِيَّةِ سَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَجَامِعِ الْأَوْصَافِ
پسندیدگی کے سردار بزرگوں کے مجمع اوصاف حمیدہ کے
الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ الْأَكْرَمِ الْمَخْصُوصِ
جو صاحب عظمت دوست ہیں اور محبوب ہیں کرم خاص کئے گئے
بِأَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَالْمَقَامَاتِ وَالْمُؤَيَّدِ بِأَوْصَافِ
ساتھ بلند مرتبوں کے اور مقاموں کے اور مدد کئے گئے ساتھ روشن
الْبَرَاهِينِ وَالذَّلَالَاتِ الْمَنْصُورِ بِالرُّعْبِ
تیز دلیلوں اور رہنمائیوں کے مدد کئے گئے ساتھ رعب کے اور
الْمُعْجَزَاتِ وَالْجَوْهَرِ الشَّرِيفِ الْأَيْدِيِّ وَالنُّورِ
معجزات کے اور جوہر بزرگ دائمی اور نور قدیم
الْقَدِيمِ الْحَمْدِيِّ السَّرْمَدِيِّ سَيِّدِنَا
محمّدی سرمدی کے سردار ہمارے

مُحَمَّدٌ الْمَحْمُودُ فِي الْإِبْجَادِ وَالْوَجُودِ الْقَائِمُ

محمد کے پسندیدہ بیخ پیدائش کے اور ہستی کے ابتدا کرنے والے

لِكُلِّ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَحَضْرَةِ الشَّاهِدِ

واسطے ہر ایک دیکھنے والے اور دیکھے گئے کے اور درگاہ مکاؤں روشنی

وَالشَّهَادَةِ نَوْرٍ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَاهُ وَسِرِّ كُلِّ

اور ظاہر ہونے کے نور ہر چیز کے اور راہنما اس کے اور بھید ہر

سِرٍّ وَسَنَاءِ الَّذِي شَقِقَتْ مِنْهُ الْأَسْرَارُ

بھید کے اور روشنی اس کے وہ ذات کہ کھولے گئے اس سے بھید

وَأَنْفَلَقَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ السِّرِّ الْبَاطِنِ وَالنُّورِ

اور روشن ہوئے اس سے انوار باطن کے بھید کے اور نور

الظَّاهِرِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْقَائِمِ الْخَاتِمِ الْأَوَّلِ

ظاہر کے سردار کامل ابتداء کرنے والے تمام کرنے والے اول

الْآخِرِ الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ الْعَاقِبِ الْخَاتِمِ النَّاهِي

آخر پرستیدہ ظاہر پیچھے آنے والے اٹھانے والے منع کرنے والے

الْأَمْرِ النَّاصِحِ النَّاصِرِ الصَّابِرِ الشَّاكِرِ الْقَائِمِ

سلم کرنے والے نصیحت کرنے والے مدد دینے والے صبر کرنے والے شکر کرنے والے دُعا مانگنے والے

الدَّاكِرِ الْمَاجِي الْمَاجِدِ الْعَزِيزِ الْحَامِدِ

ذکر کرنے والے مٹانے والے بزرگ غالب حمد کرنے والے

الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ الْمُتَوَكِّلِ الرَّاهِدِ الْقَائِمِ

یقین کرنے والے عبادت کرنے والے توکل کرنے والے زہر کرنے والے کھڑے ہونے والے

الْقَاعِدِ الرَّكَعِ السَّاجِدِ التَّابِعِ الشَّهِيدِ الْوَلِيِّ

نمازیں بیٹھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے تابع گواہ دوست خدا

الْحَمِيدِ الْبُرْهَانَ الْحُجَّةِ الْبَطَّاءِ الْمَخْتَارِ

ستودہ دلیل حجت اطاعت کئے گئے برگزیدہ

الْمَخَاضِعِ الْخَاشِعِ الْبِرِّ الْمَسْتَنْصِرِ الْحَقِّ الْبَيِّنِ

عجز کرنے والے فروتنی کرنے والے نیک مدد کرنے والے راست و روشن

ظُهُ يُسِّ الْمَزْمَلِ الْمَدَّثِرِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

ظہر یس کیل پوش چادر پہننے والے سردار پیغمبروں کے

وَأَمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَحَبِيبِ

اور پیشوا پرہیزگاروں کے اور آخر تمام نبیوں کے اور دوست

رَبِّ الْعَالَمِينَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ

پروردگار تمام جہانوں کے پیغمبر برگزیدہ اور رسول

المجتبى والحكم العدل اللطيف الخبير

مقبول اور منصف عادل پاکیزہ خیردار

الحكيم العليم العزيز الرؤوف الرحيم الغفور

دانا جاننے والے غالب محبت والے مہربان بخشنے والے

الشكور العلي الكريم نورك القديم و

شکر کرنے والے برتر بزرگ آپ کے نور قدیم اور

صراطك المستقيم محمد عبدك و

راہ آپ کی جو سیدھی ہے محمد بندے تیرے اور

رسولك وصفيك وخليك وحيبك و

رسول تیرے اور برگزیدہ تیرے اور دوست تیرے اور حبیب تیرے اور

وليك ونيبك وامينك ودليلك ونجيك و

ولی تیرے اور نبی تیرے اور امانت دار تیرے اور تیرا دستہ دکھانے والا اور ہمارا تیرے

ونخبك وذخيرتك وخيرتك وامام

اور برگزیدہ تیرے اور ذخیرہ تیرے اور خزانہ تیرے اور پیشوا

الخير وقايد الخير ورسول الرحمة النبي

خیر کے اور کھینچنے والے نیکی کے اور بھیجے ہوئے واسطے رحمت کے پیغمبر

الارحمي العربي القرشي الهاشمي الابطحي

انہی عرب کے رہنے والے قبیلہ قریش سے اولاد سے ہاشم کے بطحا والے

المكي المدني التهامي الشاهد المشهود

مکہ والے مدینہ والے تھامہ والے گواہ گواہی دینے والے

الولي المقرب العبد المسعود الحبيب الشفيق

دوست مقرب بندے نیک محبوب سفارش کرنے والے

الحبيب الرفيع البليغ الواعظ

صاحب حسب بلند مرتبہ ملاحظت والے نادر نصیحت کرنے والے

البنير التذير العطوف الحليم الجواد الكريم

بشارت دینے والے ڈرانے والے بہت مہربان تحمل والے سخی بخشش کرنے والے

الطيب المبارك المكين الصادق المصدق

پاک صاحب برکت صاحب مرتبہ سچے سچا کئے گئے

الامين الداعي اليك يا ذنك السراج المنير

امانت دار بلانے والے غلق کے طرف تیرے علم تیرے سے چراغ روشن


الذي ادرك الحقائق بجمتها وفاق

ایسے کہ جس نے جانا اصل چیزوں کو تمام کمال اور کامیاب ہوئے اور بالا



الْخَلَائِقِ بِرِقَبَتِهَا وَجَعَلْتَهُ حَبِيبًا وَنَاجِيَتَهُ
ہونے مخلوقات پر ساری اور بنایا تو نے ان کو دوست اور ہراز کیا تو نے ان کو
قَرِيْبًا وَأَدْنَيْتَهُ رَقِيْبًا وَخَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ
قرب ہے اور نزدیکی دی تو نے ان کو نگہبان ہو کر اور ختم کیا تو نے ان پر رسالت
وَالدَّلَالَةَ وَالْبَشَارَةَ وَالنَّذَارَةَ وَالنُّبُوَّةَ
اور راہنمائی اور خوش خبری اور ڈرانے اور پیغمبری کو اور
نَصْرَتَهُ بِالرُّعْبِ وَظَلَمْتَهُ بِالسَّعْبِ وَرَدَدْتِ
مدد کی تو نے ان کی ساتھ دہشت کے اور سایہ دیا تو نے ان کو ایسا اور پھیرا تو نے
لَهُ الشَّمْسَ وَسَقَقْتْ لَهُ الْقَمَرَ وَأَنْطَقَتْ لَهُ
واسطے ان کے آفتاب کو اور پھارا تو نے واسطے ان کے چاند کو اور گوایا تو نے واسطے
الصَّبَّ وَالطَّبِيَّ وَالذِّبَّ وَالْجَذْعَ وَالذَّرَاعَ
ان کے سوسمار اور ہرن اور بھیرے کو اور تنہ درخت اور بازو
وَالجَمَلَ وَالجَبَلَ وَالْمَدْرَ وَالشَّجْرَ وَالْحَجْرَ
اور اونٹ اور پہاڑ اور ڈھیلا اور درخت اور پتھر کو
وَأَتْبَعَتْ مِنْ أَصَابِعِهِ الْمَاءَ الزَّلَالَ وَ
اور لگلا تو نے ان کی انگلیوں سے پانی مینچا اور

أَنْزَلْتَ مِنَ الْمَزْنِ بَدْعَوْتَهُ فِي عَامِ الْحَلِّ
نازل کی تو نے ابرس فید سے ان کی دُعا سے بیچ سال تحوط
وَالْجَدْبِ وَأَيْلَ الْغَيْثِ وَالْمَطْرَ فَأَعْشَوْشِبَ
اور خشکی کے زوردار بارش اور مینھ پھر سری ہوئی
مِنْهُ الْفَقْرُ وَالصَّخْرُ وَالْوَعْرُ وَالسَّهْلُ وَالرَّمْلُ
اس سے سوکھی اور پتھری اور سخت زمین اور نرم زمین اور ریگستان
وَالْحَجْرَ وَالْمَدْرَ وَأَسْرَيْتَ بِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسِيدِ
اور پتھر اور ڈھیلا اور لے گیا تو ان کو ایک رات مسجد
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا إِلَى السَّمَوَاتِ
کعبہ سے مسجد اقصی تک پھر بلند آسمانوں تک
الْعُلَى إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ
پھر سدرۃ المنتہی تک پھر اس مقام تک کہ فرق دو گوشہ کمان کا
أَوَادِنِي وَأَرَيْتَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى وَأَتْلَتَهُ الْغَايَةَ
یا اس سے کم تھا اور دکھائی تو نے لگو نشانی بڑی اور پہنچایا تو نے ان کو نہایت
الْقَصْوَى وَالْكَرْمَتَهُ بِالنَّحْاطِبَةِ وَالْمُرَاقِبَةِ
مرتبہ اعلیٰ کو اور بزرگی دی تو نے ان کو ساتھ بائیں کرنے کے اور نگہبانی کے



وَالشَّافِهَةَ وَالشَّاهِدَةَ وَالْمُعَايِنَةَ بِالْبَصَرِ
اور رُو ہوئے کے اور حضور میں جانے کے اور دیکھنے کے بینائی سے
وَحَصَصْتَهُ بِالْوَسِيلَةِ الْعُظْمَى وَالشَّفَاعَةَ
اور خاص کیا تو نے اُن کو ساتھ دسینہ بزرگ کے اور سفارش
الْكَبْرَى يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ فِي الْمَحْشَرِ وَ
بڑی کے دن خوف بڑے کے محشر میں اور
جَمَعَتْ لَهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَجَوَاهِرَ الْحِكْمِ وَ
جمع کیا تو نے واسطے اُن کے معنی خیز کلمات اور جواہر حکمتوں کے اور
جَعَلَتْ أُمَّتَهُ خَيْرَ الْأُمَمِ وَغَفَرَتْ لَهُ مَا
کیا تو نے اُن کی امت کو سب امتوں سے بہتر اور بخشتا تو نے اُن کی برائتوں
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ الَّذِي بَلَغَ
کو جو اُن سے ہو چکی ہو (کسی خاص زمانہ میں) اور جو اس کے بعد ہوئی ہو وہ کہ پہنچایا
الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَشَفَّ
انہوں نے احکام پیغمبری کو اور ادا کی امانت اور خیر خواہی کی امت کی اور دُور کیا
الْغُمَّةَ وَجَلَى الظُّلْمَةَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
غم کو . اور روشن کیا تاریکی کو اور کوشش کی اللہ کے راستہ میں

وَعَبَدَ رَبَّهُ حَتَّىٰ آتَاهُ الْيَقِينَ ۗ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ
اور عبادت کی اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اسے اللہ بھیج اُن کو
مَقَامًا مَّحْمُودًا يُعْبَطُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ
مقام محمود میں کہ رشک کریں آپ پر اس میں پہلے اور پچھلے
اللَّهُمَّ عَظِّمَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَعْلَىٰ ذِكْرِهِ وَ
اسے اللہ بڑھائی دے اُن کو دنیا میں ساتھ بلند کرنے ذکر اُن کے کے اور
أَظْهَرِ دِينَهُ وَابْقَاءَ شَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ
ظاہر کرنے دین اُن کے کے اور باقی رکھنے شریعت اُن کی کے اور آخرت میں
بِشَفَاعَتِهِ فِي أُمَّتِهِ وَأَجْرُلْ أَجْرَهُ وَمَثُوبَتَهُ
ساتھ شفاعت اُن کی کے آپ کی امت میں اور عطا فرما اجر اور ثواب آپ کا
وَأَبْدِ فَضْلَهُ لِلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِالْمَقَامِ
اور ظاہر کر فضیلت آپ کی سب پہلوں اور پہنچاؤں کے لئے مقام
الْمَحْمُودِ وَتَقَدِّمِهِ عَلَىٰ كَأَفْوَةِ الْمُقَدَّرِينَ
محمود میں اور ساتھ مقدم کرنے اُن کے کے اور تمام مقبول حاضر
بِالشُّهُودِ ۗ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الْكَبْرَى
بارگاہ کے اسے اللہ قبول کر اُن کی بڑی شفاعت کو



وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ
اور اونچا کران کے بلند درجہ کو اور عطا کران کو ان کے مطالب دنیا اور
وَالْأُولَىٰ كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ اللَّهُمَّ
آخرت میں جیسا کہ دیا تو نے ابراہیم اور موسیٰ کو اسے اللہ
اجْعَلْهُ مِنْ أَكْرَمِ عِبَادِكَ عَلَيْكَ شَرَفًا وَكَرَامَةً
کر تو ان کو اپنے تمام بندوں میں سب سے بزرگ باعتبار بڑائی کے اور کرامت
وَمِنْ أَسْرَفِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَأَعْظَمِهِمْ
کے اور سب سے بلند اپنے نزدیک باعتبار درجہ کے اور سب سے بڑا باعتبار
خَطْرًا وَأَمَكْنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً اللَّهُمَّ عَظْمُ
قدر کے اور سب سے توانا نزدیک اپنے باعتبار شفاعت کے لے اللہ با عظمت
بِرْهَانَهُ وَأَقْلِبْ حُجَّتَهُ وَأَبْلِغْهُ مَأْمُولَهُ فِي
کران کی دلیل کو اور ظاہر کران کی دلیل نبوت کو اور پہنچا ان کو ان کی آرزو تک
أَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اللَّهُمَّ اتَّبِعْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ
ان کے اہل بیت اور ان کی اولاد میں اسے اللہ پیچھے پہنچا تو ان کی اولاد سے
وَأُمَّتِهِ مَا تَقَرَّبَ بِهِ عَيْنُهُ وَأَجْزَهُ عَنَّا خَيْرُ
اور امت ان کی سے وہ نعمت کہ روشن ہو اس سے آنکھ ان کی اور بدلہ دے انکو

مَا جَزَيْتَ بِهِ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَأَجْرَ الْأَنْبِيَاءِ
ہم سے بہت اچھا اس سے کہ دیا تو نے کسی نبی کو ان کی امت سے اور بدلہ دے تو سب
كُلِّهِمْ خَيْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا
نبیوں کو اچھا اے اللہ درود و سلام بھیج اوپر سردار ہمارے
مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا شَاهَدْتَهُ الْأَبْصَارُ وَسَمِعْتَهُ
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بشمار اس کے کہ دیکھیں اس کو بینائیاں اور سنیں اس کو کان
الْأَذَانُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ صَلَّى
اور درود اور سلام بھیج اوپر ان کے بشمار ان کے کہ درود
عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ
بھیجیں ان پر اور درود و سلام بھیج اوپر ان کے بشمار ان کے کہ درود نہ
يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ
بھیجیں ان پر اور درود اور سلام بھیج اوپر ان کے جیسا کہ چاہے تو
وَتَرْضَىٰ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ
اور رضا ہو تیری اس میں کہ درود بھیجا جاوے ان پر اور درود اور سلام بھیج اوپر
كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ
ان کے جیسا کہ حکم کیا تو نے کہ درود بھیجیں ہم اوپر ان کے اور درود و سلام بھیج



عَلَيْهِ كَمَا يَتَّبِعِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ

ان پر جیسا کہ سزاوار ہے یہ کہ درود بھیجا جاوے اُن پر اے اللہ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ نَعْمَاءِ

درود اور سلام بھیج ان پر اور ان کی اولاد پر بشمار نعمتوں اللہ اللہ تعالیٰ کے اور افزائشوں اس کی کے اے اللہ درود اور سلام بھیج ان پر

وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ

اور اُن کی آل پر اور اُن کے اصحاب پر اور اُن کی اولاد پر اور ان کی بیویوں و ذریتہ و اہل بیتہ و عشرتہ و عشیرتہ

پر اور اُن کی اولاد پر اور اُن کے گھر کے لوگوں اور اُن کے رشتہ دار اور خیمہ اولاد و اصہارہ و اختانہ و احبابہ و اتباعہ و

اشیاعہ و انصارہ خزنة اسرارہ و معادن

پیردوں پر اور ان کے گروہ اور ان کے دو گاہوں پر جو نگہبان ہے اُن کے عیوول کے انوارہ کنوز الحقائق و هداة الخالق و نجوم

اور کائیں ہیں اُن کے انوار کی خزائے حقیقتوں کے اور راہنما خدو قات کے اور ستارے

الْإِهْتِدَاءِ لِمَنْ اقْتَدَىٰ بِهِمْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

ہدایت کے واسطے اس کے جو اُن کی پیروی کرے اور سلام بھیج بہت بہت کثیرا دایما ابدًا و ارض عن کل الصحابة

سلام دائمی ہمیشہ اور راضی ہو تمام صحابہ سے رضامندی دائمی بشمار خلق اپنی کے اور موافق وزن عرش اپنے

وَرْضَانَفْسِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كَمَا ذَكَرَكَ

کے اور خوشی ذات اپنی کے اور موافق انداز سیاہی کلمات اپنے کے جب تک کوئی ذاکر و کلماسہی عن ذکرک غافل صلوة

ذکر کرے تو الّا آپ کا ذکر کرے اور جب تک کوئی غافل آپ کا ذکر نہ کرے وہ درود تگون لك رضی و لحقہ اداء و لنا صالحا

جو سب ہو آپ کی رضامندی کا اور اُن کے حق کی ادائیگی کا اور ہمارے لیے و اتہ الوسيلة و الفضيلة و الدرجة العالیة

بھلائی کا اور سے اُن کو مقام وسیلہ کا اور فضیلت کا اور مرتبہ بلند و الرفیعة و ابعتہ القام المحمود و اللوہ العقود

برتر اور عطا کر اُن کو مقام محمود اور نشان بستہ



وَالْحَوْضِ الْمُرْوَدِ وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَى جَمِيعِ
اور حوض کوثر وارد ہوگی امت اس پر اور رحمت بھیج اسے اللہ اوپر سب
اِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ
بھائیوں ان کے کے نبیوں اور پیغمبروں اور ولیوں
وَالصَّالِحِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَمَلَائِكَتِكَ
اور نیکیوں اور شہیدوں اور صدیقوں اور اپنے ملائکہ
الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الدِّينِ أَبِي
مقربین میں سے اور اوپر سردار ہمارے شیخ محمد الدین ابو
مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْبَكِّيِّ الْإِمِينِ صَلَوَاتُ
محمد عبد القادر جیلانی کے جو صاحب مرتبہ اور حامل امانت ہیں زمین
اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى
اللہ کی ان سب پر اسے اللہ درود اور سلام بھیج اوپر
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّالِفِينَ
سردار ہمارے محمد کے اور اوپر اولاد سردار ہمارے محمد کے کہ پہلے سے
لِلْخَلْقِ نُورَةَ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ ظَهْرَةَ عَدَدِ
سب خلقت سے نور ان کا رحمت ہے واسطے جہانوں کے ظہور ان کا موافق

مَا مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَا بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ
عدد کے اس مخلوق کے جو گذر چکی اور جو باقی ہے اور جو نیک بخت ہیں
مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةٌ تَسْتَعْرِقُ الْعَدَا
ان میں سے اور جو بد بخت ہیں ایسی رحمت جو شمار سے باہر ہو
وَيَحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوةٌ لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءَ
اور متجاوز ہو حد سے وہ رحمت کہ نہ حد ہو اس کی اور نہ نہایت
وَلَا أَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَاءَ صَلَوةٌ الَّتِي
اور نہ اغازہ اس کا اور نہ تمامی اس کی وہ درود اپنا کہ بھیجا تو نے
صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَوةٌ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ
اور ان کے ایسا درود کہ پیش کیا گیا اور ان کے
مَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ مَحْبُوبَةٌ إِلَيْهِ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ
قبول کیا گیا نزدیک ان کے محبوب ان کو درود ہمیشہ رہنے والا
يَدَاؤِمِكَ يَا قِيَّةٌ بِبِقَابِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ
ساتھ ہمیشگی تیری کے اور باقی ساتھ بقا تیری کے نہ انتہا اس کی جو بجز
عَلَيْكَ صَلَوةٌ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى
علم تیرے کے ایسا درود کہ خوش کرے تجھ کو اور پسند کرے تو اسکو اور خوش ہو تو

بِهَاءَنَا صَلَوَةٌ تَنَالُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ مَقَامِ سَجْدَةٍ

بِسَبَبِ اس کے ہم سے ایسا درود کہ بھر سے زمین اور آسمان کو باقی عبارت نقل نامک

أَوَّلِ صَلَوَةٍ تَسْتَجِيبُ بِهَا دُعَائُنَا وَتُرْكِي بِهَا

سجود میں پڑھی ایسا درود کہ قبول کرے تو بسبب اس کے دعا ہماری اور پاک کرے تو

نَفْسَنَا وَتُحْيِي بِهَا قُلُوبَنَا وَتُحِلُّ بِهَا الْعُقَدَ وَ

بسبب اس کے ہماری جانیں اور زندہ کرے بسبب اس کے دل ہمارے اور کھولے بسبب

تُفْرِجُ بِهَا الْكُرْبَ مَقَامِ سَجْدَةٍ دَوْمٍ وَيَجْرِي بِهَا لَطْفُكَ

اسکے گریں اور ڈورا کرے تو اس سے سختیوں کو اور جاری ہو بسبب اس کے

فِي أَمْرِي وَأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ مَقَامِ سَجْدَةٍ سَوْمٍ وَبَارِكْ

میرا بانی تیری میرے کام میں اور کاموں میں سب مسلمانوں کے اور برکت دے

لَنَا عَلَى الدُّوَامِ وَعَافِنَا وَاهْدِنَا وَأَمِدُّ دُنَا

تو ہمیں اوپر ہمیشگی کے اور بچا تو ہمیں اور راہ بتا ہم کو اور مدد دے ہم کو

وَاجْعَلْنَا أَمِينِينَ وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ

اور کر ہم کو بے خوف اور آسان کر دے ہمارے لئے ہمارے کام ساتھ آرام

لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِي

کے واسطے دلوں ہمارے کے اور بدنوں ہمارے کے اور ساتھ سلامتی اور عافیت کے

دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَأَخْرَتِنَا وَتَوْفِقَنَا عَلَى الْكِتَابِ

ہمارے دین اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت میں اور وفات دے ہم کو اور قرآن

وَالسُّنَّةِ وَاجْمَعْنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ

اور طریقہ پیغمبر کے اور ہم کو اس کے ساتھ جنت میں بغیر عذاب کے کہ درج جنت

عَذَابٍ يَسْبِقُ بِنَا وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا غَيْرِ

سے پہلے ہو در آں حالیکہ تو خوش ہو ہم سے نہ

غَضَبَانَ وَلَا تَتَكَبَّرْ بِنَا وَاخْتِمْ لَنَا مِنْكَ

ناراض اور نہ آزمانا ہمیں اور خاتمہ کر ہمارا اپنی طرف

بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٍ بِلَا مِحْنَةٍ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَ

ساتھ بہتری اور عافیت کے بغیر محنت کے سب کا پائی سے یاد کرتا

رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ

ہوں پروردگار کو پروردگار بزرگی کا اس سے جو بیان کرتے ہیں مشرک اور سلامتی

عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اوپر پیغمبروں کے اور سب تعریف اللہ کو جو پائے والا جہانوں کے ہے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

تیری رحمت سے اسے زیادہ رحم کر دے رحم کرنے والوں سے

**Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library**